

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SENATE OF PAKISTAN

SENATE DEBATES

Tuesday October 6, 1987

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall, (Parliament House), Islamabad, at five of the clock in the evening, with Mr. Deputy Chairman (Malik Muhammad Ali Khan) in the Chair.

(RECITATION FROM THE HOLY QUR'AN)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلْقَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَاءِ آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر
درجے بلند کیئے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے بے شک تمہارا
پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔

QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Deputy Chairman: Question No. 19 Syed Mazhar Ali.

PERFORMANCE OF NATIONAL HOCKEY TEAM

119. *Syed Mazhar Ali: Will the Minister for Culture, Sports and Tourism be pleased to state the measures taken or proposed to be taken by the Government to improve the performance of National Hockey Team?

Mr. Nisar Muhammad Khan: Consequent upon the debacle of Pakistan Hockey Team in the 10th Asian Games and 6th World Cup, the Ministry of Culture, Sports and Tourism had appointed an Inquiry Committee

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SENATE OF PAKISTAN

SENATE DEBATES

Tuesday October 6, 1987

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall, (Parliament House), Islamabad, at five of the clock in the evening, with Mr. Deputy Chairman (Malik Muhammad Ali Khan) in the Chair.

(RECITATION FROM THE HOLY QUR'AN)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلْقَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَاءِ آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر
درجے بلند کیئے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے بے شک تمہارا
پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔

QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Deputy Chairman: Question No. 19 Syed Mazhar Ali.

PERFORMANCE OF NATIONAL HOCKEY TEAM

119. *Syed Mazhar Ali: Will the Minister for Culture, Sports and Tourism be pleased to state the measures taken or proposed to be taken by the Government to improve the performance of National Hockey Team?

Mr. Nisar Muhammad Khan: Consequent upon the debacle of Pakistan Hockey Team in the 10th Asian Games and 6th World Cup, the Ministry of Culture, Sports and Tourism had appointed an Inquiry Committee

[Mr. Nisar Muhammad Khan]

The Report of the Inquiry Committee including suggestions/measures for the improvement of the game has already been placed on the Table of the House.

The following immediate steps have been taken in the light of the recommendations of the Committee:

- (a) A Supervisory Committee has been constituted, comprising 8-member.
- (b) Fresh elections of the Pakistan Hockey Federation have been held.
- (c) Action is in hand for laying of synthetic turfs at Karachi, Lahore, Islamabad and Quetta.
- (d) The Supervisory Committee has since appointed a Selection Committee and a coach for the selection/training of the Pakistan Hockey Team.
- (e) The new President, Pakistan Hockey Federation has taken over and is working in close cooperation with the Supervisory Committee for the proper selection and training of the Hockey Team.
- (f) Following Committees were constituted by the Federation for handling the respective affairs for better functioning of the Pakistan Hockey Federation:—
 - (i) Technical Committee.
 - (ii) Tournament Committee.
 - (iii) Discipline Committee.
 - (iv) Election Committee.
 - (v) Selection Committee.

سید منظر علی: جناب والا! ۱۹۸۴ء میں ہماری ہاکی ٹیم نے اولمپک گاماٹیل جیتا اور جس وقت ترانہ بجا اور ہمارا جھنڈا اوپر ہوا تو ہم سب کے سر فخر سے بلڈ ہو گئے اس کے بعد ایشین گیمز میں ہم کو ریبا سے ہارے، ورلڈ کپ میں گیارہویں پوزیشن آئی، چیمپئن ٹرافی میں پانچویں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ انکو اسٹی کیٹی کی رپورٹ ہاڈس کو پیش کر دی گئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ

یہاں سینٹ میں وہ رپورٹ پیش نہیں ہوئی بہر حال اگر پیش ہوئی تھی تو کیا آپ یہ بتائیں گے کہ اس رپورٹ میں ہاکی ٹیم کے زوال کے اجمالی اسباب کیا ہیں؟
جناب ڈپٹی چیئرمین : جناب وسیم سجاد صاحب ۔

Mr. Wasim Sajjad: Sir, the report has been presented and I can check again, if it is not there, I can provide another copy. But there are several reasons why it was felt by the Committee that the Hockey Team has lost the prestige and its status which it enjoyed.

One reason is that the persons did not get proper training. The other is that we have lack of proper synthetic turfs in Pakistan. The third is that the players did not play upto the standards required of them at that time. They were not in proper form. The fourth is Sir, that the other teams are becoming much better than Pakistan. At the time there was monopoly of Hockey between Pakistan and India. Now the European countries are coming up and their standards including their physical fitness are becoming better and higher than Pakistan and we have to strive very hard to reach those standards. So, there are several reasons. It is a long report and if the honourable Member so wants I can get another copy for him.

جناب شاد محمد خان : جناب والا! کیا یہ درست نہیں ہے کہ سیاسی اغراض کی بنا پر غلط لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اس لئے ٹیم کا بیٹر اعزق ہو رہا ہے؟

Mr. Deputy Chairman: Jenab Wasim Sajjad.

Mr. Wasim Sajjad: No Sir, we do not include politicians in the team and we do not select team because of political affiliations.

Mr. Deputy Chairman: Jenab Bangulzai Sahib.

میر حسین بخش بنگلہ زئی : یہ سپروائیزنگ کمیٹی جو کانسٹیبل ہوئی ہے اس کو منتخب کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور وہ آٹھ ممبر جو اس کے لئے منتخب کیے گئے ہیں ان کا معیار کیا ہے کس نقطہ نظر سے وہ کھیل کے ماہر ہیں، ثقافت کے ماہر ہیں، کس حساب سے لئے گئے ہیں؟

Mr. Deputy Chairman: Jenab Wasim Sajjad.

Mr. Wasim Sajjad: Sir, the committees are selected by the Pakistan Hockey Federation and the selection is made keeping in view their knowledge of the game, their expertise in the particular committee for which they are appointed and all these matters are taken into account by the Hockey Federation itself. That is the body which has to look after the standards of the game.

نوابزادہ عنایت خان: کمیٹی میں کتنے آدمی تھے جنہوں نے خود ہاکی کھیلی، اس میں کتنے ہاکی ایکسپرٹ
ممبر تھے؟

جناب وسیم سجاد: مجھے جناب اس کی تعداد معلوم نہیں ہے لیکن میں معلوم کر کے عرض کر دوں گا۔

Mr. Deputy Chairman: Jenab Javed Jabbar Sahib.

Mr. Javed Jabbar: Would the honourable Minister tell us the rationale for the fact that the President of P.H.F. is always the Managing Director of Pakistan International Airlines, what is the connection?

Mr. Wasim Sajjad: Sir, the connection is that in Pakistan the commercial organizations like PIA, Habib Bank and others have played a very vital role in the promotion of sports especially the major sports in Pakistan. The games of cricket, hockey even squash are patronized by these organizations and I feel the philosophy was—because of course, this has been going on for sometime—that a person who is head of such an important commercial organization can by virtue of his position also apart from other factors be a great asset in the development of the game.

Secondly Sir, Air Martial Noor Khan has had a long association with hockey and he was appointed the President of the PHF in his capacity also as the then Managing Director of PIA. So, this tradition has, also I would say, continued after he left office as Chairman, PIA.

جناب ڈپٹی چیئر مین: سوال نمبر ۹۲ جناب سید مظہر علی۔

QUAID-I-AZAM MAUSOLEUM

120. *Syed Mazhar Ali: Will the Minister for Housing and Works be pleased to state:

(a) the reasons for the delay in the development of the area around the Quaid-i-Azam Mausoleum.

(b) whether there is enough water available for the development of a park around the Quaid's Mausoleum; and

(c) the stage of development plans for laying of park and construction of buildings around the Mausoleum?

Mr. Muhammad Hanif Tayyab: (a) Directive was issued by the Prime Minister on 14th February, 1986. Delay occurred in finalization of concept design of development of area, as the same had to be prepared by the consultants for more than once. QMF Board approved the concept design on 31st December, 1986.

Consultants are now busy finalising the P.C.I. The same on receipt shall be submitted for approval of CDWP/ECNEC.

(b) Not from the existing sources. Two alternatives are under active consideration of the consultants. Their report in this regard will be discussed in the forthcoming meeting of the QMF Board which is expected to be held in October, 1987.

(c) Work upto schematic design of developing the area into a shalimar type garden has been completed and cleared by the QMF Board in its meeting on December 31, 1986. On the basis of the agreed schematic design, KDA prepared the model which has yet to be approved by the competent authority.

Likewise schematic design of the building complex comprising of Quaid-i-Azam Academy, Anjuman Tarraqqi-e-Urdu and the Islamic Research Centre has also been finalized by the consultants. The same has been approved both by the Users and the QMF Board in their meeting of June 18, 1987. As per Agreement the design work is to be completed within this financial year and construction would commence in July, 1988, provided the funds are made available by the users.

جناب ڈپٹی چیئرمین - ضمنی سوال ؟

سید منظر علی : جناب عالی ! جس شخص نے ہمیں آزادی کی نعمت دلائی اس کی وفات کے

چالیس سال گزرنے کے بعد بھی اس کے مزار کے گرد ایک صحیح باغ تعمیر نہ کرنا ہم سب کے

[Syed Mazhar Ali]

لیئے میں سمجھتا ہوں شرمناک ہے جبکہ چینی قوم کے ماڈرنے تنگ کا مقبرہ ایک سال میں بنا دیا گیا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ مزار پر پانی کی کمی existing sources سے نہیں ہے کہ اچی شہر میں گورنر ہاؤس میں پانی ہے۔ چیف منسٹر ہاؤس میں پانی ہے باغات میں پانی ہے اگر نہیں ہے تو قائد اعظم کے مزار پر کیوں نہیں ہے اس دوران زندہ قومیں نہریں کھود لیتی ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟

جناب محمد حنیف طیب: سر میں فاضل رکن کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی میں جناب محمد خان جو نیچو صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں وہ پہلے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں جنہیں چالیس سال کے بعد حینال آیا کہ جس شخص نے ہمیں پاکستان دیا ہے اس کے مزار کے قریب شالیمار طرہ پر گارڈن بنایا جائے ان کے اس ڈائریکٹو کے بعد ہم نے جو پروگرام کی ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کی ہے جہاں تک پانی کا سوال ہے دو alternatives ہمارے ذہن میں ہیں ایک تو محمود آباد سے الگ سے لائن لاتے کا ہے اور دوسرا سوڈس یہ ہے کہ وہاں سے جو پانی گزر رہا ہے اس کا ٹریٹ منٹ کر کے دونوں کی رپورٹیں تیار ہیں ہم نے اجلاس ستمبر میں بلایا تھا کہ اچھا کے حالات کے پیش نظر وہ اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ انشاء اللہ اکتوبر کے اجلاس میں جو بھی ہمارے لیئے زیادہ feasible ہوگا اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ شکریہ!

سید مظہر علی: کیا آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی جو سکیمیں ہیں خصوصاً باغ جو بتانا ہے اس کے لیئے کتنا وقت درکار ہوگا؟

جناب محمد حنیف طیب: سر! اس میں ہمارے ذمے جو کام ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈز ملنے پر منحصر ہے ہم نے اپنے طور پر پی سی آ کی تیاری کا جو مرحلہ ہمارے ذمہ ہوتا ہے اس کو ہم فائنل سٹیج پر پہنچا چکے ہیں اب سی ڈبلیو پی سے اور ECNEC سے پہلے منظور کر لینا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہماری ڈسپوزل پر فنڈز ہوں گے ہم ٹاپ پر ریمٹی پر اس کو کریں گے اس کام کو جلدی اور عوامی نمائندوں کی منظوری کی خاطر جناب محمد خان جو نیچو نے ایک کام یہ بھی کیا ہے پہلی مرتبہ چار اراکین کو بھی ممبروں کے بورڈ میں شامل کیا ہے جس میں اس سوال پر چھنے کی

وجہ سے نہیں لیکن اپنے تجربے کی وجہ سے جناب سید مظہر علی صاحب بھی شامل ہیں وزیر احمد جوگیزٹی ڈپٹی سپیکر بھی شامل ہیں پنجاب سے جناب مقبول احمد خان صاحب ہیں اور حاجی یونس الہی سیٹھی صاحب بھی۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: شکر یہ! جناب حسین بخش بنگلہ ٹی صاحب۔

میر حسین بخش بنگلہ ٹی: کیا وزیر موصوف یہ ارشاد فرمائیں گے کہ مجوزہ باغ کا ایریا کتنے ایکڑ کا ہے۔ باغ اور گیپیکس پورے کا؟

جناب محمد حنیف طیب: قائد اعظم کے مزار کا ٹوٹل جو ایریا ہے

وہ ۱۳۲ ایکڑ ہے۔ جس میں سے ۶۱ ایکڑ grilled boundary wall کی صورت

میں ہے اور ۷۱ ایکڑ outside that boundary wall مزار کا ہے ایریا کے

طور پر موجود ہے جو اس وقت ہمارے ذہن میں شامل باغ بنانے کا ایریا ہے وہ ۶۱ ایکڑ

میں سے جو ایریا مزار قائد کے فرنٹ اور ایم۔ اے جناح روڈ کے درمیان حصے میں وہاں

باغ بنانے کا ارادہ ہے۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: اگلا سوال سید مظہر علی صاحب اس پر تین ضمنی سوال ہو چکے ہیں اگر ایک

ضمنی سوال بھی زیادہ کرتے جائیں گے۔۔۔۔۔

Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui: Mr. Chairman, the style of the House also needs your attention. I stood twice but I could not catch your eye.

جناب ڈپٹی چیئر مین: Sorry. آپ سوال کمر لیجئے۔

جناب محمد حسن صدیقی: جناب وزیر تعمیرات یہ بتائیں گے کہ نہ صرف وہاں ڈویلپمنٹ کوئی نہیں ہوئی

بلکہ صفائی کا انتظام بھی نہیں ہے۔ ہمیں شرم آتی ہے وہاں میونسپل کارپوریشن والے اور دوسرے لوگ

اپنا کوڑا پھینکتے ہیں اسکے انسداد کیلئے کیا انتظام کیا گیا ہے؟

جناب محمد حنیف طیب: سر! وہاں ہاؤنڈری وال نہیں تھی جس کی وجہ سے وہاں کی صفائی کا۔

[Mr. Muhammad Hanif Tayyab]

انسٹانڈم نہیں تھا اس کیڈ ایم ایف بورڈ کی جون میں جو ٹیننگ ہوئی تھی اس میں فیصلہ کیا گیا کہ اس کی باؤنڈری وال بنائی جائے۔ تاکہ اس کی صفائی بھی رہ سکے اور کوئی وہاں گند نہ ڈال سکے اس کے علاوہ زمین کا تحفظ بھی ہو سکے۔ اب باؤنڈری وال کا بیشتر حصہ مکمل ہو چکا ہے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: اگلا سوال سید مظہر علی صاحب۔

REGULARIZATION OF *KATCHI ABADIES* AND RESERVED AREAS

21. *Syed Mazhar Ali: Will the Minister for Housing and Works be pleased to state whether it is a Government policy to allow regularization of *Katchi Abadies* on areas reserved for:

- road reservations;
- parks, playgrounds, and open areas for community activities;
- amenity and public utility buildings; and
- laying pipes for water, sewerage, gas, electricity, telephone lines and rain water drains, etc?

Mr. Muhammad Hanif Tayyab: Under the announcement of the Prime Minister of Pakistan all *Katchi Abadies* consisting of 40 and above hutments as on 23rd March, 1985, established on Federal/Provincial Governments lands, will be regularized except those required for purposes of security defence or essential requirement.

جناب ڈپٹی چیئرمین: کوئی ضمنی سوال؟

سید مظہر علی: جناب عالی! وزیر اعظم صاحب کی فراہم کردہ لائحہ عمل سے لوگوں نے بڑا غلط

فائدہ اٹھا یا ہے اور شہروں میں کچی آبادیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سوال بڑا صاف تھا اس کا جواب ہاں یا نہ میں آسکتا تھا۔ بہر حال میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کیا آپ کے حینال میں community buildings parks. and water sewerage

میں آتی ہیں یا نہیں؟

essential requirements

وغیرہ ڈالنے کی جو جگہیں ہیں کیا

جناب محمد حنیف طیب: کچی آبادیان بیشتر سندھ اور پنجاب میں ہیں میں سندھ اور پنجاب کا جو آرڈیننس ہے اس کا ایک پارٹ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔

No areas which is reserved for the purpose of roads, streets, water supply arrangements sewerage or other conservancy arrangements, hospitals, schools, colleges, libraries, playgrounds, gardens mosques, graveyards, Railway High Tension Lines or such other purposes is not safe from flood hazard, shall not be declared to be *Katchi Abadi*.

Syed Mazhar Ali: Supplementary, Sir.

Mr. Deputy Chairman: Syed Mazhar Ali Shah Sahib.

سید منظر علی: میں وزیر موصوف سے یہ عرض کر دوں گا کہ اس کو تھوڑا سا اور بتادیں کہ وہ ایریاز جو گورنمنٹ نے یا لوکل اتھارٹیز نے کسی سکیم کے لیے مختص کر دیئے ہوں کیا وہ بھی اس میں آئیں گے جیسے کوآپریٹو سوسائٹی وغیرہ ہیں؟

جناب محمد حنیف طیب: سر! جو آبادیاں ۳۰، ۴۰ سال سے آباد ہو گئی ہیں for all practical purposes ان کو وہاں سے اٹھانا مشکل ہوتا ہے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اگر وہ shifting کے لیے تیار ہوں تو ان کو alternate plots دیکر بھی شفٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ جو اصل مقصد پہلے سے سوسائٹی کی جانب سے ear-mark کیا گیا ہو ڈو بلینگ اتھارٹیز کی جانب سے وہاں اس مقصد کو بروئے کار لایا جا سکے لیکن ایسی صورت میں ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ یا صوبائی حکومت کی جو لینڈز جن پر قبضہ ۳۰، ۴۰ سال سے ہے ان کا practically خالی نہ کرنا ممکن نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود صوبائی حکومتیں جو اس سے ڈیل کرتی ہیں انکو ہم فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے یہ ہدایت کرتے ہیں کہ جو جس مقصد کے لیے ear-mark کیا گیا ہے اس سے ہٹ کر نہ ٹیکو لرائز کرنے کی حوصلہ شکنی کی جائے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: شکریہ! جناب جاوید جبار صاحب آپ ضمنی سوال کرتا چاہتے ہیں؟

جناب جاوید جبار: جی ہاں، اس Federal announcement کی implementation کا پروونٹنسی کنٹرول پولیس کے ہاتھ میں ہے۔ کیا وزیر صاحب اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ کراچی

[Mr. Javed Jabbar]

میں ۴۰ سال سے نہیں بلکہ تیس چالیس دن کے اندر اندر، اس اعلان کے بعد پولیس کی (connivance) چشم پوشی کی وجہ سے ایجوکیشنل پراپرٹی کنڈ بھی کچی آبادی بنا دیا گیا۔ ایسے حالات میں کیا وفاقی حکومت کوئی اقدام اٹھائے گی کہ جائز تعلیمی اداروں کی زمین واپس ہو سکے؟

جناب محمد حنیف طیب : اس سلسلے میں ۱۴ مئی کو چاروں صوبوں کے صوبائی وزراء اور ان کے اسٹاف وغیرہ کے ساتھ کراچی میں ایک میٹنگ میں نے کی تھی۔ اس میں ان سے کہا ہے کہ ایسی کچھ آبادیاں جو اس اعلان کے بعد معرض وجود میں آئی ہیں، ان کی لسٹ تیار کی جائے تاکہ ان کو دور کیا جاسکے اور اس طرح سے ناجائز کاروبار کی پوری طرح سے حوصلہ شکنی کی جائے۔

جناب جاوید جبار : کیا لسٹ بھی پولیس تیار کرے گی؟

جناب ڈپٹی چیئرمین : اگلا سوال، مولانا کوثر نیازی صاحب!

ENGINEERS IN SNGPL

122. *Maulana Kausar Niazi (Put by Mr. Abdur Rahim Mir Dad Khel): Will the Minister for Petroleum and Natural Resources be pleased to state:

(a) the total number of posts of Engineers in the engineering group of Sui Northern Gas with grade-wise break-up of those in position and the number of posts lying vacant?

(b) the total number of diploma Engineers working in Sui Northern Gas for the last five years;

(c) the reasons why they have not been promoted to the executive grade No. 1;

(d) the period required for promotion of diploma Engineers to the post of Assistant Engineers; and

(e) the number of diploma Engineers and degree holding Engineers who are working at present against the sanctioned posts?

Ch. Nisar Ali Khan: (a) The total number of posts of Engineers in

SNGPL is 235. Grade-wise break-up is given below:—

Grades	IX	VIII	VII	VI	V	IV
Posts	1	4	14	26	37	45
Grades		III	II	I	Total	
Posts		69	25	15	236	

13 posts are vacant.

(b) 182.

(c) Diploma holders are considered for promotions to the executive cadre in accordance with Executive Service Rules as and when vacancies arise. In 1986-87, 13 diploma holders were promoted to executive cadre.

(d) The period required for eligibility for promotion to executive cadre as Engineering Assistant/Foreman/Head Draughtsman is minimum 7 years in sub-ordinate cadre out of which two years must be in subordinate grade VII.

(e) The total number of diploma Engineers is 182, out of which 43 are in executive cadre and 139 in subordinate cadre. Degree holding Engineers are 121.

Mr. Javed Jabbar: Would the honourable Minister comment as to why as many as 13 posts are vacant at a time when so many Engineers are unemployed?

Mr. Wasim Sajjad: Sir, in a large organization which employs hundreds of persons to say "as many as 13" is not I think a fair comment but we have vacancies of two persons in grade VII, one in grade VI, three in grade V, two in IV and four in grade III. These vacancies have arisen over the last two years and efforts are being made to fill them up and get suitable person for these important positions.

Mr. Javed Jabbar: Sir, it is not a question of "as many". Mr. Chairman, 13 posts being vacant at a time when thousands of Engineers are desperate for employment constitutes, I think, a major omission, what is the date most recently on which these posts were advertised?

Mr. Wasim Sajjad: Sir, they are not necessarily advertised. This is a company and they have their own service rules and as I said that efforts are being made to fill up these positions. I would again say that in a company which employs hundreds of Engineers, 13 is not so many.

جناب ڈپٹی چیئرمین : کوئی اور ضمنی سوال نہیں ہے۔ اگلا سوال، مولانا کوسر نیازی صاحب،

DIVISION OF REGIONAL OFFICES OF SUI NORTHERN GAS CO. IN TO
SUB-DIVISIONS

123. ***Maulana Kausar Niazi** (Put by Mr. Javed Jabbar): Will the Minister for Petroleum and Natural Resources be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to divide the regional offices of the Sui Northern Gas into Sub-Division; if not the reason therefor?

Ch. Nisar Ali Khan: No. The existing Regional offices alongwith Sub-Area offices of Sui Northern are considered sufficient to cater for the needs of the areas.

جناب ڈپٹی چیئرمین : ضمنی سوال؟ نہیں ہے۔ اگلا سوال مولانا کوسر نیازی صاحب۔

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SUI NORTHERN GAS

124. ***Maulana Kausar Niazi** (Put by Mr. Javed Jabbar): Will the Minister for Petroleum and Natural Resources be pleased to state:

(a) the total number of Members of the Board of Directors of Sui Northern Gas, also indicating the number of Directors appointed by the Government together with their names and the period for which they have been holding their offices; and

(b) the date of the superannuation of the present Managing Director of Sui Northern Gas?

Ch. Nisar Ali Khan: (a) The total number of Directors on the Board of SNGPL is 13. The number of Directors appointed by the Government is 8. The names alongwith the date of their appointment/election is shown in Annexure-I.

(b) 29-3-1988.

Annexure-I

S.No.	Name of Directors	Date of Appointment/ Election	Nominated by
1	2	3	4
1.	Mr. Bashir Ahmad (Chairman) Secretary M/o Petroleum & N.R.	26-6-1987	Govt. of Pakistan through Ministry of Petroleum and Natural Resources.
2.	Mr. Amir Ali, Managing Director SNGPL.	24-2-1985	Do.
3.	Mr. Munir Ahmad, Director General (Gas).	18-11-1982	Do.
4.	Mr. Zakauddin Malik, Chairman O.G.D.C.	31-12-1984	Do.
5.	Mr. Muhammad Rafiq Asghar, Financial Adviser, M/o Petro- leum & Natural Resources.	13-2-1986	Do.
6.	Mr. Khan Tariq Hamid, Chair- man/Managing Director S.G.C.	22-1-1987	Do.
7.	Mr. Ali Kazim. Secretary, M/o Industries, Punjab Government.	26-6-1987	Do.
8.	Mr. Tanvir Ahmed, Secretary M/o Industries, N.W.F.P. Go- vernment.	26-6-1987	Do.
9.	Mr. D.M. Qureshi	5-12-1978	National Development Finance Corporation Under Loan Agree- ment with them.
10.	Mr. A. Sami. Qureshi	27-10-1985	National Investment Trust Limited (NIT).
11.	Mr. M.B. Farooqui	26-6-1987	Pakistan Industrial Development Corpora- tion (PVT) Limited.
12.	Mr. S.A.Q. Haqqani	19-2-1987	Investment Corpora- tion of Pakistan.
13.	Mr. Mahmood Ali Khan.	2-3-1987	Burma Oil Public Ltd. Co. U.K.

جناب ڈپٹی چیئرمین : ضمنی سوال؟ جی، میر داد خیل صاحب۔
 جناب عبدالرحیم میر داد خیل : کیا وزیر صاحب یہ بتائیں گے کہ ان کا تعلق کس کس صوبے سے ہے؟
 جناب وسیم سجاد : جناب والا! یہ غیر متعلقہ سوال ہے۔ کیونکہ ڈائریکٹرز کے لئے ایکشن ہوتا ہے،
 جو بھی ووٹ حاصل کرے وہ ڈائریکٹ بن جاتا ہے خواہ ان سب کا تعلق ایک ہی صوبے سے کیوں نہ ہو۔
 لہذا یہ سوال اس مسئلہ سے متعلقہ نہیں ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے صوبے سے متعلقہ افراد کا پتہ
 چل سکے، تو اس کے لئے فریش نوٹس دے دیجئے، میں بتا دوں گا۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : فریش نوٹس درکار ہے۔ کوئی اور ضمنی سوال ہے؟

میر حسین بخش سبگلزئی : ایک ہے جناب۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : پھر آپ اپنی سیٹ پر آجائیں اور پوچھیں۔

جناب عبدالرحیم میر داد خیل : جناب، یہ وزیر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔

میر حسین بخش سبگلزئی : نہیں ہے جناب۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : ٹھیک ہے۔ اگلا سوال میجر جنرل (ریٹائرڈ) شیرین دل خان نیازی۔

ESTIMATES (OLD AND NEW) OF COST OF CHASHMA RIGHT BANK CANAL

125. *Maj. Gen. (Retd.) Shirin Dil Khan Niazi (Put by Mr. Abdur Rahim Mir Dad Khel) : Will the Minister for Water and Power be pleased to state :

(a) the original and revised estimates of cost of Chashma Right Bank Canal;

(b) the total amount spent so far on the :

- (i) repairs;
- (ii) drainage;
- (iii) control of water logging and salinity;
- (iv) the compensation paid for damages;

(c) whether C.R.B.C. is fit for handing over to the Provincial Government;

(d) how the previously commanded area by Paharpur Canal will be irrigated; and

(e) the total flow in C.R.B.C. these days?

Qazi Abdul Majid Abid: (a) The original cost of the project of Chashma Right Bank Canal was Rs. 1570.000 million. Subsequently the cost was revised to Rs. 3539,554 million.

(b) (i) Nil.

(ii) Rs. 82.491

(iii) Rs. 82.491 as above.

(iv) Rs. 1,67,72,250

(c) Yes.

(d) The Paharpur Canal is fed from C.R.B.C.

(e) 1750 cusecs.

جناب ڈپٹی چیئرمین : کوئی ضمنی سوال ؟ نہیں ہے - اگلا سوال ، میجر جنرل (ریٹائرڈ)
شیریں دل خان نیازی -

IRRIGATION, DRAINAGE AND FLOOD CONTROL RESEARCH COUNCIL

126. *Maj. Gen. (Retd.) Shirin Dil Khan Niazi: (Put by Mr. Javed Jabbar): Will the Minister for Water and Power be pleased to state:

(a) the research work, if any, carried out by the Irrigation, Drainage and Flood Control Research Council since 1982;

(b) the total annual volume of irrigation water withdrawn by the Canal System from our rivers indicating also the total command area and the total quantity of water lost in the process;

(c) whether there is underground sweet water in the plains of the Punjab indicating also the total area in the Provinces affected by water logging and salinity and also the total area reclaimed in each province; and

[Maj. Gen. (Retd.) Shirin Dil Khan Niazi]

(d) the steps being undertaken to control the rise of the water table in the plains of the Punjab indicating also the total quantity of additional ground water to be withdrawn to control the rise of water table?

Kazi Abdul Majid Abid: (a) Please see Annexure-I.

(b) (i) The total annual Canal head withdrawals of the irrigation system, the total command area and the annual system losses are as under:—

Year						Canal Head withdrawals
						(Million Acre Feet).
1982-83	105.80
1983-84	103.01
1984-85	103.58
1985-86	98.84

Million Acres

(ii) Gross Command Area under the Irrigation System. 40.5
 Culturable Commanded area under the Irrigation system 34.5

(iii) System losses 40 per cent (rough estimate).

(c) About 16.9 million acres out of 24.6 million acres of irrigation lands (gross) in the Punjab is under lain with sweet water. Total area affected by waterlogging in the Provinces of Punjab, Sind, Baluchistan and NWFP according to water table appraisal of June, 1986 is 5.26 million acres and net area reclaimed per year is 1,28,000 acres as per details given below:

Province	Gross Area Million Acres(M.A.)	Waterlogged area million Acres		Area Re- claimed (1979 to 1986) million acres
		Year 1979	Year 1986	
Punjab	24.6	3.011	1.896	1.115—
Sind and Baluchistan	14.6	3.068	3.270	0.202+
N.W.F.P. . . .	1.3	0.077	0.094	0.017+
Pakistan (Total) ..	40.5	6.156	5.260	0.896—

Total area affected by salinity in Punjab, Sind, NWFP and Baluchistan according to surveys carried out during different periods from 1953—75 and 1977—79 was 17.894 million acres and 11.480 million acres respectively. Thus an area of 6.414 million acres was protected from salinity as per details given below:—

Province	Total area affected by surface salinity. (million Acres)	Area Reclaimed	Remaning Area to be Reclaimed
Punjab	7.028	3.012	4.016
Sind	10.212	3.312	6.900
Baluchistan	0.279	0.045	0.234
N.W.F.F.	0.375	0.045	0.330
Pakistan	17.894	6.414	11.480

[Kazi Abdul Majid Abid]

(d) To control the rise of water table in the plains of Punjab, salinity control and reclamation projects are being implemented in the affected areas. In addition to an area of 6.281 million acres already covered under completed SCARPs an area of 2.220 million acres will also become protected on the completion of on-going projects. Furthermore, an area of 5.149 million acres is proposed to be covered under future projects which are presently in the planning/investigation stage. Additional ground water to be withdrawn to control rise of water table in the sweet water zone in the Punjab is estimated to be around 9 million acres feet per year.

سید مظہر علی: میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں واٹر لاگنگ سے متاثرہ تین ملین ایکڑ رقبہ میں سے اب صرف ۱۶۸۹۶ ملین ایکڑ متاثرہ رقبہ باقی رہ گیا ہے اور سندھ میں بھی واٹر لاگنگ بڑھی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

فاضلہ عبد المجید عابد: جناب والا! سندھ میں واٹر لاگنگ بڑھی تو نہیں ہے، کہاں یہ لکھا ہوا

ہے؟

Syed Mazhar Ali: From 3.068 million acre feet in 1979, the area in Sind has increased to 3.270 acre feet in 1986. So that means the water logging area has increased instead of decreasing. So, what is the reason that whereas in Punjab it has decreased, in Sind it has increased?

Kazi Abdul Majid Abid: Sir, this will have to be checked up. I need a fresh notice to find out the reasons for it.

جناب ڈپٹی چیئرمین: اگلا سوال، شیخیں دل خان نیاز می صاحب، سوال نمبر ۱۲ کو ڈیفیز کرتے ہیں۔
اگلا سوال جناب عبدالمصمیم میر و ادخیل صاحب۔
(اس مرحلے پر نماز مغرب کی آذان سنائی دی)

جناب ڈپٹی چیئرمین: اجلاس کو نماز مغرب کے لیٹے سارے چھ بجے تک کے لیٹے ملتوی کیا جاتا

ہے۔

[The House adjourned for Maghrib prayers]

[The House re-assembled after interval with Mr. Deputy Chairman (Malik Muhammad Ali Khan) in the Chair].

جناب چيئر مين : سوال نمبر ۱۲ کا جواب وسيم سجاد صاحب دے رہے ہیں ۔

SANDIK PROJECT IN BALUCHISTAN

128. *Mr. Abdur Rahim Mir Dad Khel: Will the Minister for Petroleum and Natural Resources be pleased to state:

(a) the date of the start of work on the SANDIK project in Baluchistan alongwith the number of its employees grade-wise recruited initially;

(b) the present strength of the employees grade-wise working in the branch offices of the said project located in different places separately for each office;

(c) the amount of rent per mensem payable to the land lords for the premises used as offices of the said project located at Quetta and Karachi;

(d) the total monthly expenditure on salaries of staff and transport etc. at SANDIK, Quetta and Karachi Offices, separately in each case;

(e) the total amount spent on the project so far; and

(f) the date of present Managing Director of the project posting, his monthly salary and other fringe benefits?

Ch. Nisar Ali Khan: (a) Upto early 1974 exploratin and drilling work on the Sandik Project was being carried on by Geological Survey of Pakistan. On 15th April, 1974 Government of Pakistan established Resource Development Corporation to complete the exploration and drilling work and to evaluate potential of commercial exploitation of its mineral deposits. Mr. R.D. Habib was appointed honourary Chairman of the Corporation.

Initially, the entire staff of the Corporation consisting of 48 persons was taken on deputation from the Geological Survey of Pakistan (47) and Habib Bank Limited (1). Later on the staff was recruited as the necessity arose.

[Ch. Nisar Ali Khan]

(b) The present strength of the employees working in the branch offices of Sandik Project located in different places is as under:—

RESOURCE DEVELOPMENT CORPORATION

Grades	H.O. Karachi	LAB Karachi	QTA	SDK	Total
I	1	1	—	16	18
II	13	2	7	13	35
III	1	4	—	8	13
IV	5	3	2	34	44
V	6	1	1	6	14
VI	5	1	1	2	9
VII	—	—	—	8	8
VIII	4	2	1	3	9
IX	1	—	—	—	1
X	1	—	—	3	4
XI	—	—	1	—	1
XII	1	—	—	—	1
XIII	1	—	—	—	1
Regular Employees	39	14	13	93	159
Temporary Daily Wagers ..	1	—	3	8	12
Trainee Engineers	—	—	—	7	7
Grand Total..	40	14	16	108	178

(c) The amount of rent per month to land lords for the premises used as offices of the Sandik Project located at Quetta and Karachi is as under:—

	Rs.
(1) Head Office, Karachi	52,662
(2) Karachi Laboratory	9,000
(3) Quetta Office	7,500
Total ..	69,162

(d):

('000' Rs.)

	Head Office (Including Lab. at Karachi	Project site at Sandik	Liaison Office at Quetta	Total
Salaries, allowances and perquisites (including officers' car running expenses), Provident Fund, Gratuity Leave Salary etc.	276	343	56	675
Other Expenses				
Office rent, Electricity, stationery, postage, telephone, telex repairs & maintenance (including POL) travelling etc.	134	64	21	219
Total	410	407	77	894

(e) The total amount spent on the project so far is as follows:—

(Million Rs.)

(i) Released by Government of Pakistan	201
(ii) Aid from UN and Foreign countries	13
Total	214

This has been utilized as under:—

(Million Rs.)

(i) Exploration, investigation and feasibility studies (including RDC establishment expenses)	196
---	-----

[Ch. Nisar Ali Khan]

(ii) Fixed Assets (Plant, machinery etc.)	8
(iii) Net current assets (stores, advances, etc. less current liabilities)	10
Total as above	214

(f) There is no Managing Director in the Corporation. Dr. S.A. Bilgrami has been appointed as Chief Executive of RDC. He joined Resource Development Corporation on 15th July, 1974 as General Manager (Technical) at a salary of Rs. 7,250 (Fixed) P.M. He was appointed Chief Executive of RDC with effect from February 11, 1986 on his existing terms and conditions. Other fringe benefits are:—

- (i) LCA Rs. 200
- (ii) DA Rs. 250
- (iii) Accommodation Free suitable un-furnished accommodation or house rent @ 50% basic pay.
- (iv) Entertainment Allowance Rs. 500
- (v) Leave As per Government rules.
- (vi) Transport Free car with driver for official and private use.
- (vii) Medical Facility Free treatment for self and family including dental care and maternity for first two children.
- (viii) Personal Servants Rs. 1,250.
- (ix) Contributory Provident Fund 10% of Basic Pay drawn.
- (x) Gratuity/Pension etc. .. One month's pay for each year of service after rendering a minimum of 5 years service (3 years if service terminated by Corporation other than for misconduct) 6 months or over to be counted as one year.

جناب عبدالرحیم میرداد خیل: سپلیمنٹری سوال۔ کیا وزیر صاحب بیان فرمائیں گے کہ جمیڈ لاجیکل سروے آف پاکستان دالے جو اس کا سروے کر رہے تھے، اس پراجیکٹ پر ان کا کتنا روپیہ خرچ ہوا ہے؟

Mr. Wasim Sajjad: Sir, this figure is given in part (e) of the reply. The total amount spent on the project so far is as follows:

	(Million Rs.)
(i) Released by Government of Pakistan	201
(ii) Aid from UN and foreign countries	13
Total	214

This has been utilised as follows:

(i) Exploration, investigation	196
(ii) Fixed Assets	8
(iii) Net current assets	10
Total	214

This is given in answer to part (e) of the question.

جناب عبدالرحیم میرداد خیل: کیا وزیر صاحب فرمائیں گے کہ ایسے دفاتر جو پرائیویٹ مکانات میں واقع ہیں، ان کے لیے دفاتر خرید کر دیئے جائینگے تاکہ کہ ایہ سے نجات حاصل ہو سکے، کیا ایسی کوئی سکیم حکومت کے زیر غور ہے یا ایسا ممکن ہے؟

Mr. Wasim Sajjad: Sir, theoretically of course it is possible.

[Mr. Wasim Sajjad]

مکن تو ہر ایک چیز ہوتی ہے جی لیکن

it means that we will need an initial investment of a large sum of money which the Government may feel that at this stage is not economically feasible or is not justified by the circumstances of this particular case.

انجینئر سید محمد فضل آغا: اس پراجیکٹ پر ۲۱۴ ملین روپے خرچ ہو چکے ہیں لیکن اب یہ کو لٹ سٹور رینج میں پڑا ہوا ہے کیا اب اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا اسے ختم کر دیا گیا ہے ؟

Mr. Wasim Sajjad: Sir, it has not been abandoned. This has been approved by the ECC and we are now proceeding with this project and we do hope that in the near future we will be entering into negotiations with parties to exploit this in a commercial manner.

میر حسین بخش بنگلہ دہی: کیا وزیر موصوف صاحب یہ ارشاد فرمائیں گے کہ اس پراجیکٹ کے انفراسٹرکچر پر مزید کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ ہے ؟

Mr. Wasim Sajjad: Sir, as I have said earlier, the project has now been found feasible by the ECC and the amount of money which has been approved by the ECC for this purpose is Rs. 4030 million. The foreign exchange involved will be Rs. 2108 million. This is the amount which has been approved. Beyond that we would not be able to spend on this project.

جناب ڈپٹی چیئرمین: یہ پانچواں ضمنی سوال ہے، آخری سوال میرا داخل صاحب، آپ پوچھ لیں اس کے بعد اجازت نہیں ہوگی۔

جناب عبدالرحیم میردادخیل: کیا وزیر محترم یہ بیان فرمائیں گے کہ اس پراجیکٹ کی تکمیل پر مزید کتنا خرچہ لگے گا ؟

Mr. Wasim Sajjad: Sir, as I said the matter has now been approved at this level. It is not possible for me to state definitely

کہ جی چھ مہینے لگیں گے یا چار مہینے لگیں گے۔

But the approval has been obtained. It has been found feasible. The initial work has been done. Some further research work remains to be

done but economically as a result of investigations carried out so far it is a feasible project.

جناب ڈپٹی چیئرمین : یہ سوال نمبر ۱۲۹ ملک سعد اللہ خان صاحب ۔

RECRUITMENT PROCEDURE IN THE SUI NORTHERN GAS CO.

129. *Malik Sadullah Khan: Will the Minister for Petroleum and Natural Resources be pleased to state the procedure adopted for recruitment of subordinate staff in the Sui Northern Gas Company, particularly whether the vacancies are properly advertised?

Ch. Nisar Ali Khan: As per procedure for recruitment of subordinate staff, suitable applications received either directly or through the Ministry are short listed by concerned departments of the Company and candidates are interviewed by an interview committee comprising three senior officers of the company. Vacancies of subordinate employees are advertised only when suitable applications/candidates are not available.

جناب ڈپٹی چیئرمین : ضمنی سوال ؟

ملک سعد اللہ خان : جناب اس کو بولو کہ پھر پڑھو، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولا ہے؟
جناب ڈپٹی چیئرمین : اردو میں حاجی صاحب کو بتائیں۔

جناب وسیم سجاد : جناب والا! اس وقت جو طریقہ کار ہے ملازمت کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ درخواستیں مانگی جاتی ہیں، منسٹری کے ذریعے آتی ہیں یا براہ راست آتی ہیں پھر ہمارے منسٹری کے تین افسران کی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے اور وہ ان کا انٹرویو کر کے ان کو اس کام کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ جو ماتحت ملازم ہوتے ہیں ان کے لیے اشتہارات ملازمت کے اسی وقت دیئے جاتے ہیں جب کہ مناسب درخواستیں کمپنی کے پاس موجود نہ ہوں۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : جی فضل آغا صاحب۔

انجینئر سید محمد فضل آغا : سر منسٹر صاحب نے ایسٹو کو مکس اپ کر دیا ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ ڈیپارٹمنٹ کمیٹی ہوتی ہے، اور موزوں درخواستیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ موزوں امیدوار نہ ہوں تو اشتہار دیئے جاتے ہیں تو اب ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ کسی بھی

[Engr. Syed Muhammad Fazal Agha]

ذریعہ سے یہ بھرتی ہوتی vacancies کو، یہ ایڈورٹائز نہیں کرتے ہیں یا کن حالات میں کرتے ہیں اور کن حالات میں نہیں کرتے؟

جناب ڈپٹی چیئرمین: جناب وسیم سجاد صاحب۔

جناب وسیم سجاد: جناب والا! جب ہمارے پاس مناسب درخواستیں نہ ہوں اور ضرورت ہو تو ایڈورٹائز کرتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس درخواستیں ہیں موزوں امیدوار ہیں اور کام کرنے کے اہل ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پوزیشن پر آسکتے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔

انجینئر سید محمد فضل آغا: جناب والا! یہ درخواستیں ان کے پاس کس طرح موجود ہو جاتی ہیں جب ایڈورٹائز آپ نہیں کرتے تو آفس والے خود درخواستیں back door سے جمع کر لیتے ہیں یا کیا طریقہ ہے؟

جناب وسیم سجاد: جناب والا! میں نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ یا received as directly یعنی براہ راست یا through the Ministry منسٹری کے ذریعے میں یہ بھی وضاحت کہ دوں جناب کہ یہ کمپنی ہے حکومت کا محکمہ نہیں ہو سکتا کمپنی کمرشل آرگنائزیشن ہوتی ہے اور اس پر حکومت کے رول اپلائی نہیں کرتے۔

انجینئر سید محمد فضل آغا: سر چیک یہی گنا ہے کہ درخواستیں جو آتی ہیں وہ کس طرح پہنچ جاتی ہیں۔ لوگوں کو vacancies کا کیسے پتہ چلتا ہے جب آپ مشتہر نہیں کرتے۔ یا تو اس میں یہ ہے کہ favouritism ہے لوگ through backdoor اپنے عزیزوں کو بتا دیتے ہیں۔ یا پھر آپ اس کو مشتہر کریں۔ یہ خود بخود درخواستیں کس طرح پہنچ جاتی ہیں اور لوگوں کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہاں vacancies ہیں؟

جناب ڈپٹی چیئرمین: جناب وسیم سجاد صاحب۔

Mr. Wasim Sajjad: Sir, I think there is a slight misunderstanding in the mind of the honourable Senator. As I explained earlier, this is not a Government Department, therefore, the Government rules about advertisement do not apply to the Company, therefore, the Company follows its own procedures. It is a commercial organization. It tries to get the best people in the circumstances. For this purpose applications are received

either directly that if people directly apply to the Company or some people apply to the Ministry, they are forwarded to the Company and we interview people, also sometimes we advertise when we feel that the applications with us are not sufficient for us to take a decision, we advertise also.

جناب ڈپٹی چیئرمین: شکر یہ! جناب عنایت خان صاحب -

نوابزادہ عنایت خان: جناب والا! کیا اس میں کوئی ٹانگا کا کوٹہ رکھا گیا ہے؟

جناب وسیم سجاد: جناب والا! اس میں کوٹہ نہیں ہوتا۔

نوابزادہ عنایت خان: اس میں کوٹہ کیوں نہیں رکھا گیا؟

جناب وسیم سجاد: یہ کمپنی ہے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: جناب آپ تشریف رکھیں۔ حاجی سعد اللہ خان صاحب -

ملک سعد اللہ خان: جناب والا! ہر جگہ میں ہر علاقے کا کوٹہ ہوتا ہے اور اس میں کیوں نہیں ہے

ہمارا کوٹہ، اور یہ جو کہتا ہے کہ ہم انٹرویو لیتے ہیں۔ انٹرویو کا آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے۔

بہر حال میرا شاہ میں کون آدمی آتا ہے کہ تم بھی بھرتی ہو جاؤ، ادھر پورا ہے ضرورت ہی نہیں ہے؟

جناب وسیم سجاد: جناب یہ محکمہ نہیں ہے کمپنیز میں کوٹہ نہیں ہوتا۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: جناب جو گینزٹی صاحب -

نوابزادہ جہانگیر شاہ: جناب والا! گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ جس علاقے میں جو بھی

پر وجیکٹ ہے وہاں کے لوگوں کو ترجیح دی جائے۔ اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں؟

جناب ڈپٹی چیئرمین: جناب وسیم صاحب -

جناب وسیم سجاد: سر، جہاں تک ممکن ہو سکے اس پر عمل ہوتا ہے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: شکر یہ! اگلا سوال حاجی سعد اللہ خان صاحب -

TOTAL EMPLOYEES OF THE SUI NORTHERN GAS CO.

130. *Malik Sadullah Khan: Will the Minister for Petroleum and Natural Resources be pleased to state the total number of officials in Grade 5, 6, 7, 8 and 9 in the Sui Northern Gas Company alongwith their names, designation and educational qualifications and also the number of persons in these grades who were initially appointed as officers?

Ch. Nisar Ali Khan: 138. Names of officers and their qualifications are given in Annexure-I has been placed in the Senate Library. The number of persons initially appointed as officers is 122.

جناب ڈپٹی چیئر مین: جی کوئی ضمنی سوال؟

ملک سعد اللہ خان: جناب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اردو میں لیں۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: جی وسیم صاحب آپ ذرا حاجی صاحب کے لئے اردو میں پڑھ دیں۔

جناب وسیم سجاد: جناب والا! مجھے پتہ نہیں تھا۔ کہ مجھے یہاں

translator

یعنی مترجم کا بھی کہ دار ادا کرنا پڑے گا بہر حال جناب یہ جو افسران ہیں۔۔۔۔۔

قاضی عبد اللطیف: پورا سنٹ آف آرڈر۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: جی فرمائیے۔

قاضی عبد اللطیف: ہمارے محترم وزیر صاحب نے فرمایا کہ مترجم۔ یہ ہوتا ہے ترجم

سے۔ ترجم کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو مارنا جیسے شیطان المرجم۔ یہ لفظ ہے مترجم۔ ذرا عربی پر رحم کیا کریں۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: صحیح ہے۔ شکریہ! جی وسیم صاحب۔

جناب وسیم سجاد: جناب والا! افسران اور ان کی کوالیفیکیشن جو ہیں وہ انیکسچر I میں دی

گئی ہیں اور افسران کی تعداد ۱۲۲ ہے۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: جی اگلا سوال نثار محمد خان صاحب۔

ELECTRIFICATION OF VILLAGE LAKOT (MURREE)

131. *Mr. Shad Muhammad Khan: Will the Minister for Water and Power be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Construction Cell of WAPDA has completed the installation of electric poles in Village Lakot, Tehsil Murree, two years ago;

(b) whether it is also a fact that the Operation Cell of the WAPDA has taken over the charge of the said village; and

(c) if answer to parts (a) and (b) above be in the affirmative, when will the said village be electrified?

Kazi Abdul Majid Abid: (a) No. Electrification was completed in Feb., 87.

(b) Yes.

(c) The connections in this village are expected to be given in three months.

جناب ڈپٹی چیرمین: ضمنی سوال؟

Mr. Shad Muhammad Khan: Is it not a fact Sir, that due to shortage of meters with the Department, connections are not being given to these people?

Kazi Abdul Majid Abid: No Sir, that is not the problem.

Mr. Shad Muhammad Khan: What is the reason Sir, to take such a long time?

قاضی عبدالمجید عابد: سراسر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس ایریا میں پہلے آٹھ گاؤں کو بجلی ملی جنہیں ۱۳۵۱ کنکشن دیتے ہیں پھر اس گاؤں کو دیں گے۔ آٹھ تین ماہ کے اندر انشاء اللہ ان کو کنکشن مل جائیں گے۔

جناب ڈپٹی چیرمین: کوئی اور ضمنی سوال۔ نہیں ہے۔ اگلا سوال نمبر ۱۳۲ ملک فرید اللہ صاحب۔

PROVINCE WISE NUMBER OF EMPLOYEES IN THE SUI NORTHERN GAS CO.

132. ***Malik Faridullah Khan:** Will the Minister for Petroleum and Natural Resources be pleased to state:

(a) the total strength of workers and staff in the Sui Northern Gas Company indicating also the number of persons who belong to the Punjab, NWFP, Baluchistan and Sind Provinces grade-wise separately; and

(b) the fringe benefits admissible to them?

Ch. Nisar All Khan: (a) 3566. Province-wise break-up is given in Annexure-I.

(b) Fringe benefits admissible to subordinate employees include free medical treatment for self and family, free gas facility, annual leave fare assistance, bonus, Pension and gratuity on retirement, Contributory provident fund and accident and group insurance coverage.

Annexure-I

PROVINCE-WISE AND GRADE-WISE BREAK-UP

Grade	I	II	III	IV	V	VI	VII	Total
Punjab ..	63	217	459	300	529	561	794	2923
Sind ..	1	2	4	4	5	7	28	51
N.W.F.P. ..	22	39	102	55	68	96	103	485
Baluchistan ..	4	1	5	3	1	—	—	14

جناب ڈپٹی چیئرمین : ضمنی سوال؟ جناب فضل آغا صاحب۔

انجینئر سید محمد فضل آغا: جناب میں وزیر صاحب کی توجہ اس لسٹ کی طرف دلانا چاہوں گا کہ گو یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ حکومت کی آجمنسی نہیں ہے یہ پرائیویٹ ایجنسی ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ایریا کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں۔ سوئی گیس آپ بلوچستان سے لیتے ہیں لیکن ۳۵۶۶ ملازمین میں سے صرف ۱۴ آدمی بلوچستان کے ہیں۔ تو کیا وزیر صاحب یہ فرمائیں گے کہ یہ شفقت کب تک رہے گی آئندہ اس کا کوئی ازالہ ہو بھی سکے گا یا نہیں؟

جناب ڈپٹی چیئرمین : جناب وسیم سجاد صاحب۔

Mr. Wasim Sajjad: Sir, the reason for this is that the major operations of the company are in Punjab and Sind. It is correct that Baluchistan has only 14 but we will make efforts, so that the representation of Baluchistan does go up. But as I said there are no provincial quotas and the number of employees is greater in Punjab and NWFP only because the number of operations carried on by the company are greater in these areas.

Malik Faridullah Khan: Supplementary, Sir.

Mr. Deputy Chairman: Supplementary — Malik Faridullah Khan Sahib.

ملک فرید اللہ خان: جناب بلوچستان کو ۱۴ نو دیئے گئے ہیں لیکن فاما کا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ کیا وزیر صاحب اس بارے میں کچھ بیان فرمائیں گے؟

Mr. Wasim Sajjad: Sir, actually I don't have the exact information but if the honourable Senator would see the total of these four provinces, it comes to 3473. The balance is actually of FATA and Northern Areas but I don't have the exact figures. So, I cannot give the exact figures at this moment.

جناب ڈپٹی چیئر مین: جی جو گینزٹی صاحب۔

نوابزادہ جہانگیر شاہ: یہ بلوچستان کے ۱۴ آگئے ہیں۔ یہ کس طرح سے آگئے ہیں۔ کیا یہ کسی غلطی کی وجہ سے آگئے ہیں، یہ ذرا بتائیں۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: یہ کوئی ضمنی سوال نہیں بنتا۔

شیخ علی محمد: انہوں نے فرمایا ہے کہ انکو major operations سندھ اور پنجاب میں ہیں۔ لیکن سندھ سے صرف ۵۱ آدمی ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں پھر ہمیں کہا جائیگا کہ آپ تعصب کی بات کر رہے ہیں ذرا اس کا جواب دیں منسٹر صاحب۔

جناب وسیم سجاد: جناب والا! یہ سوٹی تادرن گیس جو ہے یہ تادرن ایریا یعنی پنجاب اور فرنٹیر میں ہے۔ سندھ میں اور کمپنیاں بھی کام کر رہی ہیں جہاں تک مجھے علم ہے اور اس لیے ان کے امپلائمنٹ وہاں پر کام کر رہے ہیں۔

Mr. Deputy Chairman: Next Question—133, Malik Faridullah Khan.

TOTAL VEHICLES WITH SUI NORTHERN GAS CO.

133. ***Malik Faridullah Khan:** Will the Minister for Petroleum and Natural Resources be pleased to state the total number of vehicles of 1000cc, 1300cc, and 1600cc with the Sui Northern Gas Company alongwith the names and designations of the persons who are using these vehicles?

No. of Vehicles of 1000cc	4
No. of Vehicles of 1200cc	3
No. of Vehicles of 1300cc	41
No. of Vehicles of 1600cc	2

Details of allocation of above vehicles is given in Annexure-I.

SUI NORTHERN GAS PIPELINES LIMITED

INFORMATION REGARDING STAFF CARS

590

SENATE OF PAKISTAN

[Oct. 6, 1987

Sr. No.	Vehicle Regn. No.	Make	Engine Model	Engine Power	Allocated to		Remarks
					Name	Designation	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LHV-1346	Nissan Sunny	1987	1000 cc	Mr. Amir Ali	Managing Director
2.	LHV-1347	"	"	"	—	—	Protocol duties, Islamabad.
3.	LHV-1348	"	"	"	—	—	Protocol duties, Head Office
4.	LHV-1123	"	"	"	—	—	Managing Director's pool car.
1.	LEZ-553	Datsun 120Y	1980	1200 cc	—	—	Protocol duties, Head Office.
2.	LEZ-8657	"	1980	"	Mr. Mian A. Wajid	..	Coordinator (PB&MC)
3.	LHB-6522	"	1980	"	Mr. M. Akram Saeed	..	Chief Engineer (Transmission).
1.	LHM-4778	Toyota Corolla	1985	1300 cc	Mr. Muqaddas A. Khan	..	General Manager (Commercial)
2.	LHR-9973	"	1987	"	Mr. M. Aslam Chaudhry	..	General Manager (Technical)
3.	LHM-5926	"	1985	"	Mr. Z.A.D, Qureshi	..	Special Asstt. to Managing Director
4.	LHM-9563	"	1985	"	Mr. M. Latif Chaudhry	..	Distribution Manager.
5.	LHM-9564	"	1985	"	Mr. S.A. Naiyer	..	Purchase & Stores Manager.

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	LHM-9618	..	1985	..	Mr. S.M. Sarwar	Company Secretary.
7.	LHR-459	Lancer	1986	..	Mr. Masroor-ul-Haq	Manager Special Duty
8.	LHR-1261	Toyota Corolla	1986	..	Mr. S.I. Ibe-e-Ali	Personnel Manager.
9.	LHR-8072	..	1987	..	Mr. Javed Hameed	Transmission Manager
10.	LHR-8073	Toyota Corolla	1987	1300cc	Mr. Ahmed Ebrahim	Manager Telecom —
11.	LHR-8263	..	1987	..	Mr. Muhammad Fazil	Finance Manager
12.	LHV- 538	..	1987	..	Mr. Javed Inam	Sales Manager —
13.	LHC-1460	..	1981	..	Mr. Malik Mohammad Aslam	Chief Engineer (Project) —
14.	LHC-9991	..	1981	..	Mr. M. Khalid Mirza	Chief Accountant (C&P) —
15.	LHC-4140	..	1982	..	Mr. Shahnawaz Cheema	Chief Data Processing —
16.	LHD-5409	..	1982	..	Mr. Asad Siddiqi	Chief Accountant (Finance) —
17.	LHF-4335	..	1982	..	Mr. Aftab A. Khan	Chief Sales Officer (P&C) —
18.	LHF-4336	..	1982	..	Mr. S.Q.H. Jafery	Chief Corporate Planning —
19.	LHF-4480	..	1982	..	Mr. S.M. Shabbir Hussain	Chief Sales Officer —
20.	LHG-2931	..	1983	..	Mr. Rashid A. Lone	Chief Engineer (Ops) —
21.	LHR- 68	..	1985	..	Mr. Shaukatullah Khan	Chief Admin Officer —

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	LHM-9561	..	1985	..	Mr. S.M.U. Islam	Chief Stores Officer
23.	PRH-1862	..	1985	..	Mr. Ikramullah Mufty	Chief Engineer (Maintenance) —
24.	LHR-4347	Charmant	1986	..	Mr. Jamil A. Siddique	Chief Engineer (D&C) —
25.	LHR-3912	Toyota Corolla	1986	..	Mr. Mustafa A. Khan	Coordinator —
26.	LHR-8811	..	1987	..	Mr. Liaquat Hussain Malik	Chief Billing .. —
27.	LHV- 564	..	1987	..	Mr. S.A. Jafery	Chief Engineer (Distribution) —
28.	LEV-6030	..	1978	..	Mr. Farooq M. Khan	Regional Manager, Multan —
29.	FDJ- 68	..	1981	..	Mr. Raja A. Wahid	Regional Manager, Islamabad —
30.	FDJ-7372	..	1985	..	Mr. S.A. Mehkari	Regional Manager, Faisalabad —
31.	LHM-9561	Toyota Corolla	1985	1300cc	Mr. M. Aslam Zahid	Regional Manager, Lahore —
32.	LEW-9543	..	1979	..	—	—	Protocol duties, Multan.
33.	LEY-5171	..	1980	..	—	—	Protocol duties, Wah.
34.	LEZ-9169	..	1980	..	—	—	Protocol duties, Head Office.
35.	LEZ-8652	..	1980	..	—	—	..
36.	LH-2445	..	1980	..	—	—	..
37.	LHA-3720	..	1980	..	—	—	..
38.	LHB-7950	..	1981	..	—	—	Protocol duties, Peshawar.

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	LHC-1053	„	1981	„	—	—	Protocol duties, Head Office
40.	LHD- 956	„	1982	„	—	—	„
41.	LHD-2160	„	1982	„	—	—	„
1.	LHG-8141	Honda Accord	1983	1600cc	—	—	Off. Road, Head Office.
2.	LHR- 642	Corona	1986	1600cc	—	—	VIP/Protocol duties, Head Office.

ملک فرید اللہ خان : ضمنی سوال - کیا محترم وزیر صاحب ارشاد فرمائیں گے کہ یہ گاڑیاں

کیا اب بھی ان کے زیر استعمال ہیں ؟

Mr. Wasim Sajjad: Sir, the list is given with the answer and the names of the officers using them are also given in the answer and it will be indicated in the answer itself as to whether the officer concerned is using it or the car is being used as a protocol car for protocol duties.

ملک فرید اللہ خان : جناب اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے کیا پٹرولیم اور نیچرل ریسورسز کے

ادارہ سوئی ناردرن ہے کی طرف سے وزیر اعظم کے اعلان کے باوجود ۱۳۰

سی سی اور ۱۶۰۰ سی سی کاروں کا استعمال، کیا وزیر اعظم کے احکام کی حکم مدہ دی نہیں ہے ؟

جناب وسیم سجاد : جناب والا! جناب وزیر اعظم کے احکام کی خلاف ورزی کا سوال ہی پیدا

نہیں ہوتا۔ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور یہاں پر انہوں نے دیکھا ہو گا کہ مثلاً یہاں مینینگ ڈائریکٹ

کے پاس ۱۰۰۰ سی سی کی گاڑی ہے۔ اور صرف دو ۱۶۰۰ سی سی کی گاڑیاں ہیں جو اس وقت صرف

پروٹوکول ڈیپوٹیز کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، جن کے لیے وزیر اعظم نے ہدایت کی تھی کہ اس

کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ لیکن آئندہ بھی ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ اب کوئی بڑی

گاڑی اس کارپوریشن میں استعمال نہ کی جائے۔

مولانا سمیع الحق : جناب والا! اس نکتے کے مطابق جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ ایک نمبر

سے لے کر ۶ نمبر تک تقریباً سب کی سب مینینگ ڈائریکٹ کے پاس ہیں کیا ان کو چھ گاڑیاں دی

گئی ہیں۔ سنی نسان چار گاڑیاں ہیں۔ اور پھر ڈاٹسن ہیں۔ یہ سب کی سب عام عملی صاحب کے ساتھ

Mr. Wasim Sajjad: Sir, if you will look at the answer the car at serial No. 1, i.e., a 1000cc car is being used by the Managing Director. The car at serial No. 2, 3 and 4 are actually cars for protocol duties at Islamabad and at the Head Office, and then the car at serial No. 4 which is Managing Directors' pool car that is also used for the guests and for the protocol duties by the office. And then again Sir, serial No. 1 is a Datsun which is also on protocol duties at the Head Office.

مولانا سمیع الحق : میرے پاس اردو میں جواب ہے اس میں تفصیلات نہیں ہیں۔

Mr. Deputy Chairman: Next question, Jenab Javed Jabbar Sahib.

SPORTS ORGANIZATIONS AND THEIR CHIEF EXECUTIVES

134. ***Mr. Javed Jabbar:** Will the Minister for Culture, Sports and Tourism be pleased to state:

(a) the names of the sports organizations such as the Board for Control of cricket in Pakistan where the policy head or the chief executive officer is nominated by the Federal Government; and

(b) the occasion and extent of intervention by the Government in these organizations?

Mr. Nisar Muhammad Khan: (a) Apart from Pakistan Sports Board set up by the Government whose Director General is appointed by the Government, the BCCP is the only sports organization whose President is nominated by the President of Pakistan in his capacity as the Patron-in-Chief of the BCCP. In the case of all other sports federations the office bearers are elected.

(b) The President of the BCCP is a member of the executive committee of the Pakistan Sports Board. The executive committee of the Pakistan Sports Board which is headed by the Minister for Culture, Sports and Tourism is responsible for all policy decisions in matters concerning the PSB and also for the distribution of grants in aid to the affiliated sports federations including the BCCP. The policy of the BCCP is thus influenced through the coordinating mechanism of the executive committee of the PSB. The constitution of the Pakistan Sports Board and the constitution of the BCCP are annexed.

(Annexures have been placed in the Senate Library).

Mr. Javed Jabbar: Supplementary, Sir.

Would the honourable Minister comment as to why cricket alone is blessed with the patronship by the Head of State whereas the truly people's sports like football, hockey, have not also been given the same status?

Mr. Wasim Sajjad: Sir, cricket, from the point of view of the people is a very important sport. There is tremendous public participation in this sport and the constitution of the Cricket Control Board which was

[Mr. Wasim Sajjad]

notified by the Federal Government about 8/9 years ago. In this constitution the patron of the Board was the President of Pakistan and it has continued since then because that is the constitution of the Board.

Mr. Javed Jabbar: Sir, does the answer not inadvertently omit a body such as the National Sports Trust. Should not that it have been included in the answer because that is also a body created or controlled specifically by the Government of Pakistan?

Mr. Wasim Sajjad: Sir, I would need a fresh notice for that Sir. I would not be able to answer that at this moment.

جناب ڈپٹی چیئر مین : کوئی اور ضمنی سوال ؟ میرا خیال ہے نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب جاوید

جبار صاحب -

DEVELOPING OF TALENT IN SPORTS AT VILLAGE AND TOWN

135. ***Mr. Javed Jabbar:** Will the Minister for Culture, Sports and Tourism be pleased to state:

(a) the measures by which the Federal Government monitors and evaluates the efficiency and facilities with which Provincial Governments are developing talent in sports at village and town level; and

(b) the dates and venues of meetings in the past 3 years between the Federal Minister for Sports and the four provincial Ministers held in this behalf?

Mr. Nisar Muhammad Khan: (a) The Federal Government through Pakistan Sports Board has been working in close collaboration with all the Provincial Sports Boards for the creation of better sports facilities as well as for harnessing raw talent available at the village and town levels.

To coordinate sports activities with Provincial Sports Boards, the Pakistan Sports Board not only sponsors Inter-Provincial Youth Tournaments but also organizes coaching camps to disseminate the latest technical knowledge in the field of coaching, organization and sports medicine, etc.

The services of foreign coaches are loaned to the Provincial Sports Boards when they are free from their assignments with the national teams. The services of national coaches are also provided to Provincial Sports Boards for organising youth training camps as well as tournaments.

The Federal Government has also been providing substantial grants for the development of playing facilities at district, tehsil and town levels.

(b) No such meeting was held during the last three years. However, we contemplate to hold such a meeting in the near future.

جناب ڈپٹی چیئرمین: ضمنی سوال؟

Mr. Javed Jabbar: I would have liked to ask the Minister whether this near future means 1987?

Mr. Wasim Sajjad: Yes, Sir. Effort will be made to hold the meeting.

Well, I would not say it because Sir, 1987 is also coming to an end but within the next six months.

جناب ڈپٹی چیئرمین: دفعہ سوالات ختم ہو گیا۔ باقی سوالات اور ان کے جوابات جو میز پر ہیں وہ پڑھے ہوئے تصور کیے جائیں۔

قاضی عبداللطیف: پورا سنٹ آف آرڈر۔ پھر وہی قصہ ہے کل والا۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: قاضی صاحب مجھے تو کوئی انکار نہیں ہے۔

قاضی عبداللطیف: میں گزارش کروں کہ میری باری آئی۔ سوال بڑا مختصر سا ہے اگر آپ مہربانی کر دیں تو۔۔۔۔۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: میں نے انوائس بھی کر دیا ہے اور آپ کے سوال سے پہلے دو تین سوال بھی ہیں اس لیے نہیں ہو سکتا۔

GRANTS-IN-AID TO SPORTS ORGANIZATIONS

!q36. ***Mr. Javed Jabbar:** Will the Minister for Culture, Sports and Tourism pleased to state the procedure by which the Federal Government evaluates the efficacy with which grants-in-aid given to sports organizations are utilized?

Mr. Nisar Muhammad Khan: The following procedure is adopted to efficaciously evaluate the utilization of grants-in-aid:—

1. Each affiliated federation is required to send to Pakistan Sports Board:
 - (a) Periodical reports of its activities.

!Question Hour being over the remaining questions and their answers were placed at the Table of the House.

[Ch. Nisar Muhammad Khan]

- (b) Audited statement of accounts for each financial year.
 - (c) Manager's reports after participation of sports teams in international competitions.
 - (d) Performance/achievement reports in various international competitions.
2. As regards major international competitions like Olympics, Asian Games and SAF Games, a Chief-de-Mission is also sent with the contingent who submit a report to the Government on the performance of the contingent.
 3. The performance and requirement of funds of all national sports federations are discussed in the meetings of the Pakistan Sports Board as well as in the meetings of the honorary Secretaries of the national sports federations.
 4. The acid test of the efficient use of funds by a Sports organization are the laurels that its team wins for the country.

KULACHI GRID STATION

137. *Qazi Abdul Latif: Will the Minister for Water and Power be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a permanent Power Grid Station has been installed at Kulachi in Dera Ismail Khan;

(b) whether it is also a fact that there are about one thousand eight hundred electric connections in operation at Kulachi; and

(c) whether it is further a fact that no office exists at Kulachi to deposit bills for payment or carrying out necessary correction in them; and if so, the steps being taken by the Government to provide this facility at Kulachi?

Kazi Abdul Majid Abid: (a) Yes.

(b) Yes.

(c) No. Branch of National Bank is there in Kulachi to receive deposits of bills. Bills can be corrected in the SDO's Office at Tank. WAPDA cannot provide a Sub-Division for each town with 1400 Number of consumers because it would be economically unjustified.

OIL EXPLORATION IN NWFP

138. ***Qazi Abdul Latif:** Will the Minister for Petroleum and Natural Resources be pleased to state:

(a) the total number of tests carried out for the exploration of oil etc. in NWFP particularly in F.R.D.I. Khan indicating also the locations and the dates of these tests and the expenditure incurred separately in each case between 1982—87; and

(b) the results of these tests and future programme of exploration in this region?

Ch. Nisar Ali Khan: (a) No exploratory drilling for petroleum exploration has been carried out in NWFP particularly in D.I. Khan between 1982—87. However, prior to 1982, five exploratory wells namely Nandrakki (1957), Domanda (1959), Pezu (1968), Marwat (1970) and Karak (1977) were drilled in NWFP. These were abandoned as dry holes.

(b) Geologic and seismic surveys carried out by Oil and Gas Development Corporation from 1976 through 1986 and by Crescent Petroleum Company during 1986 in Bannu-Kohat areas indicate presence of structures for exploration drilling. Oil and Gas Development Corporation plans to drill Shakkardara exploratory well-I located in Karak district during 1987-88.

TRANSFORMERS BURNT IN KULACHI

139. ***Qazi Abdul Latif:** Will the Minister for Water and Power be pleased to state:

(a) whether it is a fact that three out of twenty two transformers installed in the city of Kulachi have got burnt; if so the date on which each of the transformer got burnt, the period for which each remained in service and the reasons for getting burnt;

(b) why the burnt transformers have not been repaired or replaced so far; and

(c) whether it is also fact that two transformers sanctioned long ago, though shown in record to have been installed, have not been actually installed, if so, the action the Government intends, to take against the persons responsible for it?

Kazi Abdul Majid Abid: (a) Yes. Three transformers were damaged due to wind storm which hit D.I. Khan on 17th July, 1987 and 19th July, 1987.

[Mr. Salim Saif Ullah Khan]

(b) Yes.

(c) No.

GOMAL DAM

140. *Mr. Salim Saifullah Khan: Will the Minister for Water and Power be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Gomal Dam was conceived in the fifties;

(b) whether it is also a fact that a large sum has already been spent on the project; and

(c) the reasons for the delay in the completion of the project?

Kazi Abdul Majid Abid: (a) Yes.

(b) So far Rs. 106.9 million has been spent on the project.

(c) The work on the dam itself could not be undertaken because of differing opinions of experts on site and design of the dam.

HOUSING SCHEME ON OWNERSHIP BASIS

141. *Mr. Salim Saifullah Khan: Will the Minister for Housing and works be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a project for building 5000 houses for Civil Servants at Islamabad on ownership basis was approved by the Cabinet in August, in 1986 if so, and

(b) the steps taken by the Government to implement the above decision?

Mr. Muhammad Hanif Tayyab:(a) Yes.

(b) It has not yet been possible to implement the Cabinet decision due to non-provision of the required number of residential plots by the C.D.A.

ENVIRONMENTAL PROTECTION COUNCIL

142. *Mr. Salim Saifullah Khan: Will the Minister for Housing and Works be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Environmental Protection Council was established in 1983; and

(b) whether any meeting of the council has been held so far; and if not the reasons therefor?

Mr. Muhammad Hanif Tayyab: (a) Pakistan Environmental Protection Council was established on February 13, 1984.

(b) No.

The composition of the Pakistan Environmental Protection Council has not yet been finalized as it involves an amendment in the Ordinance. In Cabinet meeting held on 18-9-1987, proposed amendment has been approved in principle. The same after necessary processing shall be placed before the National Assembly.

MINERAL DEPOSITS

143. ***Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui:** Will the Minister for Petroleum and Natural Resources be pleased to state:

(a) the nature and the extent of mineral deposits discovered in the country since 1985; and

(b) the steps taken by the Government so far for the exploration of the mineral resources in the country?

Ch. Nisar Ali Khan: (a) The GSP has discovered quite a few minerals in Pakistan since its inception. However, since 1985 the following major mineral finds have been made:—

- (i) Lead-Zinc deposits (estimated resources 50 million tons) at Surmai area, Khuzdar district, Baluchistan.
- (ii) Coal deposits of Duki area Baluchistan were resurveyed and evaluated at 38 million tons.
- (iii) Coal deposits in the East-Indus Thatta district, Sind. The reserves are being evaluated.
- (iv) Lithium prospects in Chitral. Reserves, grade and extent of prospects are being evaluated.
- (v) Manganese prospects in North Waziristan. Reserves grade and extent of prospects are being evaluated.

(b) The Geological Survey of Pakistan which is the national mineral exploration agency is conducting systematic exploration and evaluation of mineral resources potential of the country. The department is presently

[Mr. Nisar Mohammad Khan]

conducting field and laboratory studies for the exploration of copper deposits in North Waziristan in (collaboration with FATADC) for metallic minerals in Azad Kashmir with AKMIDC: Surmai Lead-Zinc prospects in Khuzdar district with JICA Japan:

Lead-Zinc evaluation in Lasbela-Khuzdar Metallogenic Belt with NUDP:

Coal Resources of Sonda Thatta and Lakhra Sind, Salt Range Punjab, Khost Sharig Harnai Baluchistan with USAID. By now 549,000 sq. Km. area of the country has been geologically mapped on 1:250,000 scale and 220,000 sq. km on 1:50,000 scale. Geophysical surveys have been conducted covering an area of 159,885 sq. km in parts of the country and air borne surveys have been carried out in Baluchistan covering an area of 108,000 sq. k.m.

HUB LAKE

144. ***Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui:** Will the Minister for Culture, Sports and Tourism be pleased to state:

(a) the progress made so far to develop the Hub Lake area situated near Karachi as a tourists resort; and

(b) when this project will be completed?

Mr. Nisar Muhammad Khan: (a) A committee was set up under the chairmanship of the Chairman, Pakistan Tourism Development Corporation for developing Hub Dam as a tourist-cum-recreational spot. M/s. Pakistan Environmental Planning and Architectural (Consultants) were appointed as Consultants by the Committee who have completed the following seven studies:—

1. Pre-Feasibility Report.
2. Pre-Planning Studies.
3. Master Plan for Hub Lake.
4. Detailed Topographical Survey.
5. Land Scape Plan.
6. Detailed Layout Plan.
7. Feasibility Report (Financial analysis and Proposals).

These studies have been handed over to the Provincial Governments of Sind and Baluchistan for implementation. The Committee has now ceased to function.

(b) The Committee has completed its assignment and has been wound up. The Provincial Governments of Sind and Baluchistan will execute the short and long term development plans prepared by the Consultants in their respective areas.

145. Transferred to Interior Division.

PROJECTS FOR PROVIDING FACILITIES TO TOURISTS

146. ***Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui:** Will the Minister for Culture, Sports and Tourism be pleased to state:

(a) the total number of new tourist projects being undertaken by the Government during the year 1987-88;

(b) total amount of funds allocated for this purpose;

(c) the details of further facilities being provided to the tourists by the Government; and

(d) total number of tourists who visited Pakistan during 1985-86 and 1986-87?

Mr. Nisar Muhammad Khan: (a) Pakistan Tourism Development Corporation propose to undertake six new tourist projects during the year 1987-88.

(b) An amount of Rs. 15.00 million has been allocated in ADP 1987-88 for creation of Road side facilities on Karakoram Highway and for partial financing of on-going schemes of Pakistan Tourism Development Corporation.

(c) The following facilities are being provided to the tourists by the Government:—

(i) No visa is required by the nationals of those countries with whom Pakistan has either a formal Visa Abolition Agreement or who allow Pakistani nationals to gain entry into their country without visa. Moreover, visa is also not required by the personnel of the UNO and the International Court of Justice (The Hague) travelling on duty.

- (ii) Foreign tourists who visit Pakistan for a period of not more than 6 months and are not professionally employed in Pakistan, have been allowed duty free import of 21 items.
- (iii) Tourist are allowed to import a motor vehicle duty free under *Carnet de Passage* for a period of upto 3 months. The term motor vehicle refers to any motor car, motor cycle, van and micro bus or bus.
- (iv) Conversion of foreign exchange facility has been provided at all entry points.
- (v) PIAC offers discounts to foreign tourist groups ranging from 4 to 20 persons. The discounts on different routes range from 14 per cent to 69 per cent.
- (vi) *Bonafide* tourists travelling individually or in groups are allowed 25 per cent concession in rail fares in all classes by Pakistan Railway. Similarly foreign students travelling by rail in Pakistan are allowed 50 per cent concession in rail fare.
- (vii) Foreign students travelling individually or in parties are allowed 50 per cent discount on PIA flights within Pakistan.
- (viii) Government approved tourist guides are available in all the major cities and museums.
- (ix) Hotel accommodation is available in all the major cities. A hotel and restaurant guide is published by the Research and Statistics Section of this Division for the facility of tourists. PTDC is running hotels, motels and camping sites at various areas of tourist attraction.
- (x) Every year, a booklet on frontier formalities containing relevant information is printed and distributed to Pakistan Missions abroad and private agencies engaged in the tourism sector.
- (xi) PTDC has set up 18 (eightee) Tourist Information Centres at different touristically important places for imparting information to the tourists, both foreign and domestic. PTDC provides tourist literature including brochures, pamphlets etc. on different places of tourist attractions in Pakistan which are printed on behalf of the Government.
- (xii) Transport service is operated by Pakistan Tours Limited, a subsidiary of PTDC.

(d) The total number of foreign tourists visiting Pakistan were 0.441 millions in 1985 and 0.432 millions in 1986.

ELECTRIFICATION OF VILLAGES

147. ***Malik Faridullah Khan:** Will the Minister for Water and Power be pleased to state whether electricity could be provided to one or two villages on the recommendation of a Member of the Parliament during the financial year 1987-88?

Kazi Abdul Majid Abid: One village.

SUPPLY OF NATURAL GAS TO THATTA

148. ***Mr. Abdul Majid Kazi:** Will the Minister for Petroleum and Natural Resources be pleased to refer to his reply to question No. 129 given in the House on 3-8-1987 and state:

- (a) the projected cumulative profit/loss with and without payment of gas development surcharge for the supply of natural gas to Thatta city;
- (b) the project cumulative cash surplus/deficit of the said scheme;
- (c) the increase in price per MCF required by the Southern Gas Company to offset the short fall, if any; and
- (d) the expected date of the supply of the natural gas to the residents of Makli/Thatta?

Ch. Nisar Ali Khan: (a) The cumulative loss for five years with and without payment of gas development surcharge for the supply of natural gas to Thatta city as estimated by Southern Gas Company in the feasibility report is Rs. 1.432 million and Rs. 0.965 million respectively.

(b) In the feasibility the Company has projected a cash surplus of Rs. 1.135 million, but the cash flow is being examined in the light of CDWP decision to establish whether it would result in surplus or deficit situation.

(c) The price increase required to mop up the above loss as worked out by SGC is Rs. 6.63 per MCFT.

(d) Supply of natural gas to the residents of Makli/Thatta is expected to take about 6 months from the date of approval of the project and release of funds by the Government.

FLARING OF GAS IN OILFIELDS

149. ***Mr. Abdul Majid Kazi:** Will the Minister for Petroleum and Natural Resources be pleased to refer to his reply to question No. 130 given in the House on 3-8-1987 and state:

(a) the field-wise quantities in M.M.C.F.D. of high pressure associated gas being flared from various oil fields in the country;

(b) the average day power generation and consequent associated gas consumption taking place at Khaskheli, Leghari Dhabi and Mazari oil fields; and

(c) year-wise and field-wise quantities in M.M.C.F.D. from various oil fields and cumulative value of these flared gases in terms of import substitution price of furnace oil of the corresponding period instead of the consumer price of furnace oil?

Ch. Nisar Ali Khan: (a) No quantity of high pressure associated gas is being flared from any oil field in the country at the moment.

(b) Field-wise quantity of gas used for generation of electricity for oil field operations is as under:—

Khaskheli	185,000
Leghari	35,000
Dhabi	50,000
Mazari	50,000
						320,000
					Total (SCFD)	320,000

SCFD—Standard Cubic Feet per day.

(c) The question is incomplete an open ended in terms of time scale. A correct reply cannot be prepared due to following reasons:—

(a) Flaring of associated gas in Toot and Meyal oil fields dates back to 1968 when the country was surplus in furnace oil. The value of flared gases for these oil fields cannot be determined on import parity price until fuel oil became deficit.

(b) Flared gases are classified as high pressure and low pressure. At present about 11.7 MMCFD of low pressure uneconomical associated gases are being flared with an average of 1-2 MMCFD from each field. Their valuation on import parity price of fuel oil would be theoretical when the producers prices for associated gases are in the range of 25—35% of fuel oil price. These prices were introduced in 1986.

OWN HOUSES

150. *Mr. Abdur Rahim Mir Dad Khel: Will the Minister for Housing and Works be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of Federal Government Servants who own houses in Islamabad are residing in Government accommodation; and,

(b) the action Government proposes to take against such servants?

Mr. Muhammad Hanif Tayyab: (a) There may be some such cases. However, no data in this respect are maintained.

(b) The Pakistan Allocation Rules 1971 do not preclude any Federal Government Servants, owning houses, to reside in Government owned accommodation. Therefore, no action against them is contemplated.

LEAVE OF ABSENCE

جناب ڈپٹی چیئرمین: رخصت کی درخواستیں جناب مہر خداداد خان مک نے چند ذاتی مصروفیات کی بنا پر ایوان سے ۲۴ ستمبر تا ۴ اکتوبر ۱۹۸۷ء رخصت کی درخواست کی ہے کیا ایوان رخصت کی اجازت دیتا ہے؟
(رخصت منظور کی گئی)

جناب ڈپٹی چیئرمین: جناب غلام فاروق نے نجی مصروفیات کی بنا پر ایوان سے ۶ اکتوبر تا اختتامِ اجلاس رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا ایوان رخصت کی اجازت دیتا ہے؟
(رخصت منظور کی گئی)

جناب ڈپٹی چیئرمین: جناب سردار یوسف خان ساسولی نے نجی مصروفیات کی بنا پر ایوان سے ۶ اکتوبر تا اختتامِ اجلاس رخصت کی درخواست کی ہے کیا ایوان رخصت کی اجازت دیتا ہے؟
(رخصت منظور کی گئی)

PRIVILEGE MOTION

Mr. Deputy Chairman: Privilege motion. Jenab Javed Jabbar Sahib.

PRIVILEGE MOTION, *RE*: FAILURE OF THE GOVERNMENT TO SEND A DELEGATION OF PARLIAMENTARIANS TO ATTEND THE CONFERENCE OF THE ASIAN FORUM OF PARLIAMENTARIANS ON POPULATION AND DEVELOPMENT HELD IN BEIJING, CHINA

Mr. Javed Jabbar: Thank you Mr. Chairman.

I ask for leave to move that the privilege of this House has been breached by the failure to arrange for a single Member of Parliament from Pakistan to participate in the Conference of the Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development held in Beijing, China, from September, 23 to 25, 1987. The undersigned attended the Conference on the invitation of the organizers as their guest. The following facts are relevant to determine breach of privilege:

1. Population and development are fundamental concerns for the progress of Pakistan. The rate of population growth in Pakistan is one of the highest in the world. The Government has a population welfare division exclusively concerned with this subject.
2. The Conference was held in China which is one of the oldest and closest friends of Pakistan.
3. Countries facing equally, if not even more acute economic crisis conditions and austerity conditions sent as many as 14 Parliamentarians at their own expense to represent the Parliamentarians of their countries and to express their solidarity with this common international concern, Pakistan did not send a single Parliamentarian at its own initiative.
4. Even though a 10 Member Parliamentary Delegation from Pakistan to China arrived in Beijing on September 24th which was the second day of the Conference, none of its Members were nominated to attend this Conference.
5. There was a notable contrast between the fact that the Head of State of Pakistan, President Zia-ul-Haq, sent an official message to the Conference and on the other hand no more than one Parliamentarian from Pakistan was present at the Conference whereas another Asian country which has a border conflict with China took the initiative of sending as many as 14 Parliamentarians at its own expense.

This lapse in my view has marred the relationship between the Parliament and Parliamentarians of Pakistan with the Parliament and Parliamentarians of China as well as other Asian countries which in a very functional sense represents an inadvertent if at all it can be described as such consequence of impeding and obstructing Parliament from fulfilling its duties.

Mr. Chairman, just two brief points on admissibility because I have already put my basic arguments in the motion itself. I think this fact represents the low priority which we are giving to the cause of population and development. We are indulging in a policy that lacks political will and lacks political commitment simply because population growth is considered to be politically a sensitive issue and politically or potentially an unpopular issue we are by-passing it. But in by-passing this I think we are being most unfair to the present and the future generations of Pakistan which will have to bear the consequences of this.

2. I think by the fact of Pakistan's most abysmal failure to represent its Parliament at this Conference. We have truly damaged the relationship that we have had in the past with the Parliamentarians of other countries. Thank you.

Mr. Deputy Chairman: Jenab Wasim Sajjad Sahib.

Mr. Wasim Sajjad: Sir, as far as the importance of this problem is concerned I think nobody would deny that population planning is a matter of vital concern to Pakistan. Our future development depends on the extent to which we can control population in the country. I would also not deny the fact that China is one of our oldest and closest and a tried friends of Pakistan. We are proud of our relationship with China. Also Sir, I do not deny that other countries which are facing acute economic crisis they have sent their delegates, good luck to them, Sir. They have to fix their own priorities in sending their delegates. Also Sir, I do not deny that a 10 Member Parliamentary Delegation from Pakistan did visit China and therefore did its best in promoting the friendly relations between Pakistan and China. Recently we had the Speaker of the National Assembly come back from China, I myself Sir, had the honour of visiting China and I remember very vividly the graciousness with which the Chinese Government received me and it was also indicative of the strong and friendly relations between Pakistan and China but I think Sir, these are not really relevant.

The relevant question is by not sending a delegation to this important Conference as stated by Senator Javed Jabbar was any privilege of the honourable Member or of the Parliament breached.

[Mr. Wasim Sajjad]

Now Sir, I have had occasion to state this proposition earlier on several occasions that the privilege of a Member is that right or concession which is given to a Member to enable him to perform his functions in Parliament more effectively, more efficiently and by not sending a delegation to China that privilege or that right of the Member has not been affected. In no way are his functions prejudiced by the fact that the delegation was not sent. In fact I understand from this motion and from newspaper reports and the several photographs I have seen that the honourable Senator did visit China and I am sure he must have done his best to promote in a large measure the friendly Pakistan-China relationship.

So, I would say Sir, that despite the fact that this is an important issue about the population planning but no breach of privilege has taken place. No right of the Member is involved and this is a matter between Parliaments whether they send delegates as it depends on a large number of circumstances and in this case the matter was actually processed by the Secretariat itself and during the processing of course certain things happened. But as I said I do not want to go into that because we are here concerned with the privilege of the Member and whether it is breached or not and as I explained Sir, it does not get breached because a certain delegation is not sent to a particular country.

Mr. Deputy Chairman: Javed Jabbar Sahib.

Mr. Javed Jabbar: Mr. Chairman, I would only like to stress again that at no point have I raised the question of personal privilege. I am talking about institutional privilege. A question of privilege is very difficult to define. It is not a standard, easily definable concept. There are references in 'May's Parliamentary Practice' which point out that a House itself is the final arbiter of its own privilege. Now, when one claims privilege one is trying to promote effective representation of Pakistan in these conferences because Parliamentary Delegations unfortunately are treated as political gifts and one wishes to see the day in this country when conference participation by Parliamentarians should not be seen as something that is gifted on the basis of political loyalties or on narrow political priorities, It should be done on the basis of national priority as population and development are national issues.

Representation of Pakistan at this conference particularly when our delegation arrived in China would have been most appropriate. I know from personal experience that the Members of the Chinese Parliament and other Parliaments who were present at this conference took very strong note. they found it very strange that Pakistan had bothered to send 10

people for a virtual excursion tour to China whereas there were very basic issues being discussed as to how we could improve the implementation of our historically inefficient programmes. Now Mr. Chairman, I hope you have taken note of these points; I do not wish to repeat what I have already stated in my privilege motion.

جناب ڈپٹی چیئرمین: جی، وسیم سجاد صاحب۔

جناب وسیم سجاد: جناب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جہاں تک ایک ممبر کے استحقاق کا تعلق ہے یہ ایک خالصتاً فنی چیز ہوتی ہے اور یہ ان اختیارات کے بارے میں ہے جو ایک ممبر کو اسمبلی میں یا سینٹ میں اپنا کام کرنے کے لیے، زیادہ موثر طریقے سے کام کرنے کے لیے اور حقوق دیئے جاتے ہیں لیکن یہ چیز کہ کسی ممبر کو کسی ڈیلیگیشن میں نہیں بھیجا یا کسی وفد کو کسی پارلیمنٹ میں نمائندگی کے لیے نہیں بھیجا اس سے استحقاق بجز وہ نہیں ہوتا اس طرح تو کئی دعوتیں ہوتی ہیں کہیں پر وفد بھیجے جاتے ہیں کہیں پر نہیں بھیجے جاتے لیکن اس کا استحقاق سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: جناب جاوید جبار صاحب۔

جناب جاوید جبار: جناب مجھے یقین ہے کہ جو دلائل میں نے پیش کیے ہیں ان پر آپ نے توجہ دی ہے۔۔۔۔۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: تو آپ پریس نہیں کرتے۔۔۔۔۔

جناب جاوید جبار: نہیں میں پریس ضرور کروں گا، میں کبھی کوئی چیز اس طرح لا کر اور پھر آپ کے کہنے پر وہ ڈرا نہیں کروں گا۔ اگر آپ ہمارے دلائل کے جواب میں کچھ فرمایا جاتے ہیں تو فرمائیے پہلے سے مکھی ہوئی کوئی رنگ آپ پڑھ کر سادیں گے تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: جاوید جبار صاحب میں نوٹس کا سہارا تو ضرور لوں گا اور آپ کی پریویج

موشن اتنی لمبی ہے اس کو دیکھ کر میں اس کی روشنی میں عرض کروں گا۔

جناب جاوید جبار: فرمائیے جی۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: میں نے نوٹس لینے ہونے میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے پوائنٹ

[Mr. Deputy Chairman]

نوٹ کیے ہوتے ہیں۔ ۲۲ ستمبر سے ۲۵ ستمبر ۱۹۸۷ء تک کانفرنس آبادی و ترقی کے موضوع پر بیجنگ میں منعقد کی گئی۔ "ایشین فورم آف پارلیمنٹریں کانفرنس" میں شرکت کے لیے پارلیمانی ممبران کی خاطر خواہ تعداد بھیجنے میں حکومت کی ناکامی پر محرمک کے استحقاق کی خلاف ورزی ہوئی ہے لہذا محرمک نے تحریک پیش کی۔ محرمک نے الزام لگایا کہ آبادی و ترقی پاکستان کی ترقی کے لیے بنیادی مسائل میں کیونکہ پاکستان آبادی میں اضافہ کی شرح کے لحاظ سے دنیا کی بڑی شرحوں والے ممالک میں سے ایک ہے حکومت کا آبادی کی بہبود کا ایک شعبہ بھی ہے جو محض اسی موضوع کے لیے مخصوص ہے۔ چین پاکستان کا سب سے قریبی اور دیرینہ دوست ہے پاکستان کی طرف سے کانفرنس میں نجی طور پر بطور رکن سینٹ شرکت کرنے والا واحد شخص محرمک ہی تھا۔ محرمک نے یہ موقف بھی اختیار کیا کہ بنگلہ دیش اور بھارت جیسے ممالک نے کانفرنس میں شرکت کے لیے کافی بڑے بڑے وفد بھیجے تھے پاکستان نے کانفرنس میں شرکت کے لیے کسی کو بھی نہیں بھیجا۔ مہاشندہ ریکارڈ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی سے ادا چار اراکین کو وفد میں شامل کرنے کی تجویز تھی بشرطیکہ ان کے اخراجات سرپرست اتھارٹی برداشت کرے اس امر پر بھارت میں مقیم پاکستانی سفارتخانے ایشین فورم آف پارلیمنٹریں براٹے آبادی و ترقی ۳۳ دودھی سٹریٹ نئی دہلی کے سیکریٹری جنرل کو ۲۴ ستمبر ۸۷ء کو خط لکھا تھا ایک ٹیلیکس بتا رہا ہے ۲۳۔۹۔۸۷ میں یہ ظاہر کیا گیا کہ پاکستان اگر کانفرنس میں شرکت کے لیے پارلیمانی ارکان کے زیادہ ممبران بھیجا چاہتا ہے تو اپنے اخراجات خود برداشت کرے گا لیکن منتظمین نے صرف پاکستان کے ایک مندوب کا کہ یہ اخراجات ادا کرنے کی پیشکش کی دریں اثناء یہ ظاہر ہوا کہ اس فورم نے رکن سینٹ جناب جاوید جبار کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی اور ان کے اخراجات برداشت کرنے کی بھی پیشکش کی۔ اس تحریک کے محرمک سینٹر جاوید جبار نے کانفرنس میں شرکت کی اور انہوں نے مبینہ طور پر کانفرنس میں کی جانے والی بحث میں نمایاں کردار ادا کیا تھا ان حوالہ جات سے یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ منتظمین کی طرف سے اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل سرکاری وفد کو مدعو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا جنہوں نے صرف ایک مندوب کو بلانا پسند کیا اور بیجنگ کے دورے کے لیے اس کے اخراجات برداشت کیے۔ مزید برآں

اس کانفرنس کا اہتمام حکومت چین نے کیا تھا لہذا چین اور پاکستان کے مابین دو طرفہ تعلقات پر
 مفرا اثرات پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نیز سینیٹ کو بھی یہ دعوت دی گئی تھی کہ کانفرنس
 میں شرکت کے لیے سینیٹروں کا وفد بھیجا جائے چنانچہ سینیٹ پر اس کانفرنس میں شرکت کرنے
 یا سینیٹروں کا وفد بھیجنے کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ یاد رہے کہ سینیٹ میں اس کانفرنس کا رکن بننے
 کا تجویز زیر غور ہے۔ اراکین سینیٹ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس گروپ کی رکنیت کے
 لیے اپنی رضامندی ظاہر کریں تاکہ اس بارے میں ایک تحریک پیش کی جائے اور ایوان اسے
 ادارے کی رکنیت کے لیے باضابطہ طور پر منظور ہی دے۔ حال سینیٹ یا کسی سینیٹر نے اس کانفرنس
 کی باضابطہ رکنیت حاصل نہیں کی ہے چنانچہ سینیٹ پر اس امر کی پابندی نہیں ہے کہ وہ اس کانفرنس
 میں شرکت کرے جب تک کہ سینیٹروں کا ایک پارلیمانی گروپ سرکاری طور پر نہیں بننا اور
 کانفرنس کی رکنیت حاصل نہیں کرتا۔

یہ کانفرنس ۲۳ ستمبر سے ۲۵ ستمبر تک جاری رہی محکم ایوان میں ۲۷ ستمبر کو موجود تھے
 اگر حکومت کی عدم شرکت ایوان کے استحقاق کی خلاف ورزی کا باعث ہوتی جیسا کہ محکم کا موقف
 ہے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس مسئلہ کو ایوان میں ۲۷ ستمبر کے اجلاس میں اٹھاتے جب وہ خود
 اس ایوان میں موجود تھے اور انہوں نے دیگر تجاویز بھی پیش کی تھیں چنانچہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ
 محکم نے استحقاق کی خلاف ورزی کے معاملہ کو اولین موقع پر اٹھانے کا موقع ضائع کر دیا اور
 اس طرح یہ تحریک قاعدہ ۵۹ (ii) کی رو سے منظور نہیں کی جاسکتی محکم نے اپنی تحریک میں جو
 الزامات عائد کیے ہیں ان کے ثبوت میں انہوں نے متعلقہ دستاویزات بھی پیش نہیں کی ہیں
 حالانکہ قاعدہ ۵۸ کی رو سے ایسا کرنا لازمی ہے اور اس کی عدم تعمیل سے تحریک کو قاعدہ ۵۸ کے
 تحت منظور نہیں کیا جاسکتا ان تمام وجوہ کے باعث اس تحریک میں پارلیمانی استحقاق کی خلاف
 ورزی کا کوئی مخصوص سوال نہیں اٹھایا گیا جس کے لیے سینیٹ کی مداخلت درکار ہوتی ہے لہذا یہ قاعدہ
 ۵۸ اور ۵۹ دوم اور سوم کی رو سے صریحاً ناقابل منظور ہی ہے اور اسے خلاف قاعدہ قرار
 دیا جاتا ہے۔

جناب جاوید جبار: آپ کی اجازت ہے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: جی جناب مجھے یہ بالکل پتہ ہے آپ نے اجنار تک محدود نہ ہونا ہے اور اس کے بعد نہ آپ سینٹ میں دلچسپی لیتے ہیں نہ کچھ اور کرتے ہیں۔ اگلی مولانا کوثر نیازی صاحب۔

Mr. Javed Jabbar: What did you say Mr. Chairman? May I ask you to kindly repeat what you said.

Mr. Deputy Chairman: Maulana Kausar Niazi Sah b.

Mr. Javed Jabbar: Did you make a personal comment?

(Interruptions)

Mr. Chairman, I want a point of personal explanation. I take exception to your making a statement about my intent or my motivation because except for Almighty Allah no one has the right or the ability to look into my heart and judge my motivation. I think this is very unfortunate that the Chair has chosen to make a statement. I was wanting to make a point of personal explanation as to why on the 27th of September I did not submit this privilege motion. The record will show that there were a number of other adjournment motions already pending. This is not factually correct.

جناب ڈپٹی چیئرمین: اس کو میں نے رول آؤٹ کر دیا ہے۔ مولانا کوثر نیازی کی request ہے کہ ان کی پریویریج موشن۔۔۔۔۔

مولانا سمیع الحق: پوائنٹ آف آرڈر، جناب چیئرمین! میں آپ کا بوجہ شکور ہوں آپ تو ہمیشہ مجھ پر مہربان رہتے ہیں جس دن میں بیٹھا رہتا ہوں اس دن میری تحریک استحقاق رکھتے ہی نہیں ہیں اور اتفاق سے میں دو چار منٹ کے بیٹے اور آدھرا منٹ لگتا تو پھر آپ کہیں گے کہ وہ حق تو ساقط ہو گیا میں نے آج بھی تحریک استحقاق دی تھی۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: مولانا آپ کی تحریک کب آئی ہے میں سینٹ سیکریٹریٹ سے پتہ کرتا ہوں کہ کب آئی ہے۔

مولانا سمیع الحق: میں نے آج صبح دی تھی اب اگر میں نہیں ہوں گا تو پھر آپ کہیں گے آپ نہیں تھے۔ آپ تو نہیں کرتے لیکن جناب چیئر مین صاحب کا معمول تو یہی ہے۔
جناب ڈپٹی چیئر مین: اگر ہے کوئی تو میرے سامنے نہیں آئی ابھی تک۔
مولانا سمیع الحق: میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں آج آجائے قاضی عبداللطیف صاحب اور میری مشترکہ تھی۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: جی لیٹ ملی ہے اور انڈر پراسس ہے ...
مولانا سمیع الحق: حضرت یہ تو ہمیشہ کہہ دیتے ہیں حالانکہ رولز میں ہے کہ دو گھنٹے پہلے بھی ہوتے لے سکتے ہیں۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: جمعرات کو آپ
مولانا سمیع الحق: جمعرات کو شاید میں نہ ہوں پھر آپ کہیں گے

حضرت آپ دیکھ لیں وہ ان کے پاس موجود ہوگی۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: وہ یہاں پر نہیں ہے۔
مولانا سمیع الحق: اتنی پیچیدہ نہیں ہے وزیر اطلاعات صاحب موجود ہیں وہ اس کا جواب دے دیں گے۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: مولانا آپ تشریف رکھیے۔

مولانا سمیع الحق: آپ ذرا رولز کے مطابق مجھے بنا دیجئے کہ اجلاس سے دو گھنٹے پہلے اگر تحریک دے دی جائے تو کیا وہ

جناب ڈپٹی چیئر مین: مولانا صاحب آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ یہ بات مجھ سے چیمبر میں پوچھ لیں میں سینٹ سیکریٹری اور اپنے ڈپٹی سیکریٹریز صاحبان کو بھی بلاوں گا اور پتہ کریں گے کہ کیا ہوا ہے؟

مولانا سمیع الحق: آئندہ نشست میں اگر میں نہ آیا تو اس کو آپ ساقط تو نہیں کریں گے؟

جناب ڈپٹی چیئرمین: اگر میں نے preside کیا تو ڈیفیر کر دیں گے۔ ایڈجمرنٹ موشنز۔
ایڈجمرنٹ موشن ۳۷، ۱ اور ۴۲ کا نفس مضمون ایک ہے جناب پروفیسر نوز شیدا احمد صاحب اور
مسٹر جاوید جبار صاحب کی ہے۔

ADJOURNMENT MOTIONS

(i) Re: KIDNAPPING OF HAJI HASHIM, A BUSINESSMAN OF KARACHI

Mr. Javed Jabbar: I ask for leave to move that the House do now adjourn to discuss a matter of recent occurrence and of urgent public importance namely: the kidnapping of a leading industrialist and businessman of Pakistan, Haji Hashim in Karachi. Subsequently, as you know the gentleman, has been recovered. I would like to nevertheless press the motion because there are some arguments for admissibility, if it is being opposed. If it is not being opposed then I do not need to say anything.

جناب ڈپٹی چیئرمین: جی جناب راجہ نادر پروفیسر صاحب۔

Raja Nadir Pervaiz Khan: Opposed.

جناب ڈپٹی چیئرمین: اپوز کرتے ہیں۔ فرمائے جاوید جبار صاحب۔

Mr. Javed Jabbar: As we all know this gentleman, Mr. Hashim, has been subsequently recovered—after I sent the notice of the adjournment motion. However, I do not think that simply by his recovery the importance of the subject has been reduced. In fact, I think by his recovery and the manner of his recovery the importance of this subject has been increased for the following reasons:

This particular kidnapping, Mr. Chairman, represents the first kidnapping of its kind—at least during the tenure of this Government where a major industrial figure has been kidnapped from the heart of a large city. So far in our tormented province of Sind dacoities and kidnappings have been largely confined to the rural areas of Sind and people living in the urban areas have been trying to re-assure themselves that as long as they do not step out of Karachi or Hyderabad or Sukkur they may still be safe from being kidnapped but the kidnapping of this particular gentleman coming as it did in a very densely populated area of Karachi was the first signal that the law and order situation of

rural Sind is now equally a part of urban Sind. Of course, there have been other instances in urban Sind which have down. However, I think this particular kidnapping is also interesting because to date no credible explanation has been provided by the Government of Sind which, of course, makes it a provincial matter. However, the Federal Government has not shown any interest in the impact that this has had on the psychology, on the morale, on the self-confidence of the people of Sind and of Pakistan. The Prime Minister as usual visited Karachi, the Chief Minister made his ritualistic statements which we have been listening to for the past 2½ years but the reason why I press for the admissibility of this motion is that after dozens and hundreds of discussions and proposals on law and order under this Parliament, the Federal Government can no longer absolve itself of the responsibility. so, I first of all rebut the claim that this is a provincial matter. It is not a provincial matter, it is a federal matter.

Secondly, the Federal Government is responsible for providing some explanation as to how it proposes to give security of life and property not only to the rich industrialists of this country but also to the poor people of this country particularly the people of my province. And Sir, the fact that time and again major crimes are committed, major lapses in law and order take place and no accountability is enforced. At the very most, I: Gs are changed, SHOs are switched from one place to another but the ultimately responsible people who have political responsibility—there is no such thing as an administrative responsibility—this is a political issue—law and order, the security of the citizens is a political responsibility. Why is the Federal Government not willing to impose accountability on those who are responsible for creating the state of terror in this country?

قاضی عبداللطیف: پوائنٹ آف آرڈر میں جناب بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں آپ نے فرمایا تھا کہ جب دوسرا اجلاس شروع ہوگا تو پہلی تحریک التذا آپ کی آئے گی۔ یہ الفاظ آپ کے تھے اور اسی ایوان میں کہے تھے۔
جناب ڈپٹی چیئرمین: جناب مجھے یاد ہے۔ جی راجہ صاحب۔

راجہ نادر پرویز خان: شکریہ جناب۔
قاضی عبداللطیف: جناب والا! آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پہلے آپ ہی کی آئے گی۔
جناب ڈپٹی چیئرمین: جی، مجھے الفاظ یاد ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ہے۔

قاضی عبداللطیف : یہ تو پھر نمبر وار ہی آئے گی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پہلے آئے گی۔
 جناب ڈپٹی چیئرمین : پہلے کرنا چاہتے ہیں تو میں پھر راجہ صاحب سے اور ہاؤس سے بھی
 ریکورڈ کر لیتا ہوں۔

قاضی عبداللطیف : اب تو وہ پیش ہو گئی ہے۔
 جناب ڈپٹی چیئرمین : ٹھیک ہے پھر راجہ صاحب۔

Raja Nadir Pervaiz Khan: Thank you Sir. I have heard the arguments of the honourable Member. I just want to point out one thing Sir, that I am even carrying alongwith me the newspapers in which the son of Seth Hashim had given statements regarding the recovery of his illustrious father, the famous man, industrialist who was kidnapped from Karachi. I want to assure on the floor of the House all the honourable Members that Government is fully alive to any situation, any deteriorating situation as far as the law and order of the country is concerned. Any man who is kidnapped, any important man, any political man, for us a man in the street or an industrialist, they are both equal, they are both important, they are both important citizens of this very country and the nation. This is a peculiar situation. We are still trying to resolve the mystery of a person who was kidnapped allegedly by some people or he had managed to go out from the House for three weeks and returned back to his residence after three weeks and he states, as the newspapers say, that he had gone for Chilla to a tomb in Thatta. It was confirmed by his son and the person himself. The Government machinery at the same moment must have got the report of kidnapping of an industrialist, had come into activity. They had their resources. They had their agents. They were trying to recover the man but now the Government is trying to uncover the mystery of the person who remained absent for three weeks from his residence and came back at his own. I know Sir, that after the so called kidnapping of the industrialist there was a feeling of insecurity among the industrialists, among the important personalities of Karachi city and the other areas.

We feel Sir, that as the honourable Member said, the law and order is the responsibility of the Provincial Government and we are in constant touch with Provincial Government. We give them directives from time to time. We make inquiry from time to time. We get reports from the Provincial Government from time to time and we want to ensure the honourable Member that we are fully alive to the situation and even upto now we have not given up the case even the Industrialist has come back at his own and he has given a statement in the newspapers and I am getting those newspapers. We still want to find out and resolve the mystery as to how the man mysteriously disappeared from his house and he came back after

three weeks. I assure the honourable Member that it is the responsibility of the Government but the responsibility also lies on the shoulder of the Provincial Government and we keep on passing them directions as far as the law and order situation is concerned and I just want to quote Article 74 that is schedule 4 of the Constitution 1973; law and order basically is the provincial subject but we are totally in contact with the Provincial Government and we ensure the honourable Member once the man has come back at his own, we still want to resolve the mystery and I assure him that the Government is fully alive to the situation and we are trying our best that no incident of such nature does occur again. With this argument I am sure Sir, the honourable Member will not press his motion as the famous industrialist has come back at his own. Thank you Sir.

Mr. Deputy Chairman: Jenab Javed Jabbar Sahib.

Mr. Javed Jabbar: Mr. Chairman, there are two points on which I want to respond; (1) if it is correct that this gentleman, the industrialist went for his private religious reasons, missing for three weeks, then I would like to ask the Federal Government, are measures being taken to ensure that the colossal waste of public money that occurred in chasing shadows and illusions for three weeks where dozens or hundreds of policemen were deputed up country, down country, federal Agencies were involved, is a person simply to be let off the hook, simply because he happens to be a rich industrialist and can take us for a ride. But if that is not correct then I request the honourable Minister to give a time limit to the Provincial Government not to let this matter drift and simply say that the Provincial Government is being asked. Fix a time limit, impose accountability, so that once and for all the faith and confidence of the people in law enforcement is made clear. Otherwise that industrialist should be requested to pay the money to the federal exchequer for all the lacs of rupees that have been spent in chasing an illusion because if money can be paid to dacoits as ransom then money must be paid to the public exchequer of Pakistan if the charge is correct.

Mr. Deputy Chairman: jenab Raja Nadir Pervaiz Sahib do you want to throw some light on it?

Raja Nadir Pervaiz Khan: Sir, I would like to make a brief statement. SSP, CIA Karachi is still investigating the case. We want to resolve the mystery and we want to put the responsibility on the person if he went at his own and the Government machinery became active and everybody, all the persons were involved, we just want to ensure on whose shoulders lies the responsibility. If the man had gone at his own and it is all a drama even then it will come to the Press and we will put it before the honourable House and this investigation is still continuing to resolve this mystery and we want to put the responsibility on a person and if it is found out later on

[Raja Nadir Pervaiz Khan]

that it was all a fake issue still the action would be taken according to the law. Thank you.

جناب ڈپٹی چیئر مین: جاوید جبار صاحب آپ move کرتے ہیں یا نہیں؟

Mr. Javed Jabbar: Mr. Chairman, particularly after your pre-comments on my previous motion I insist on pressing this motion.

جناب عبدالرحیم میرداد خیل: جناب چیئر مین، جیسے کہ ملک کے حالات ہیں ان کے پیش نظر نہ صرف سیٹھ ہاشم کی بات تھیں ہے بلکہ اس وقت ہر شخص پریشانی کی حالت میں مبتلا ہے اور اگر کوئی باہر جاتا ہے تو اسے اغوا کا خوف طاری رہتا ہے۔ اس لیے اس تحریک کو منظور کیا جائے اور اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو تحفظ مل سکے۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: شکر یہ! جناب جاوید جبار کی ایک تحریک میں کراچی کے ایک بڑے تاجر ہاشم کے اغوا کے واقعہ کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی بازیابی کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اخباری اطلاع، جن پر یہ تحریک مبنی ہے، میں تضاد پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ روزنامہ مورخہ ۱۹ ستمبر کے اشاعت کے مطابق حاجی ہاشم کو اغوا نہیں کیا گیا لہذا ان وجوہات کی بنا پر تحریک کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس لیے اس کو خلاف ضابطہ قرار دیا جاتا ہے۔

انگلی تین تحریک التوا کا ایک ہی نفس مضمون ہے۔ یہ ہیں ۴۳-۴۴ اور ۴۵-۴۶ قاضی عبداللطیف صاحب کے نام پر ہے اور ۴۵ طارق چوہدری صاحب کے نام پر ہے اور ۴۶ قاضی حسین احمد صاحب کے نام پر ہے۔ قاضی عبداللطیف صاحب۔

(ii) RE: BREAKING OPEN AND ESCAPING OF MANY PRISONERS FROM PARA CHINAR JAIL

قاضی عبداللطیف: میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ سینیٹ کی کارروائی روک کر اس اہم حالیہ وقوع پذیر واقعہ پر بحث کی جائے جو روزنامہ جنگ راولپنڈی مورخہ ۲۴ اگست ۸۷ء میں شائع ہونے کے ساتھ تخریب کار اور بد معاش پاراچینار جیل سے فرار ہو گئے۔ جیل کے نالے توڑ دیئے گئے۔ تخریب کاروں کا اٹھواں ساتھی پکڑا گیا! جناب والا! معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں ملے کی سازش باز سے یہ کارروائی ہوئی ہے۔ لہذا اس پر ایوان کو بحث کا موقع دیا جائے۔

جناب ڈپٹی چیئر مین : جناب قاضی صاحب ! وزیر متعلقہ سید قاسم شاہ صاحب کی طرف سے یہ request آئی ہے کہ ان سے متعلقہ ان تینوں کو ڈیفر کر دیا جائے ۔

قاضی عبداللطیف : بہت اچھا ٹھیک ہے جناب والا ۔

جناب محمد طارق چوہدری : جناب چیئر مین یہ قاسم صاحب کی طرف سے کس طرح ہے یہ تو وزارت داخلہ کا مسئلہ ہے۔ اور داخلہ کے دو وزیر بیٹھے ہیں ایک بھی نہیں ۔
جناب ڈپٹی چیئر مین : یہ قاسم سے متعلق ہے ۔

Raja Nadir Pervaiz Khan: As requested it should be deferred because it deals with Kashmir and Northern Affairs Division, Sir.

جناب جناب محمد طارق چوہدری : کیا قاسم پاکستان میں نہیں آتا جی ؟
جناب ڈپٹی چیئر مین : قاسم اور ناردرن ایریا ڈویژن کے لیٹے ایک علیحدہ منسٹری ہے اس کا تعلق انسٹریٹ سے ہوتے ہوئے بھی وہ ڈیل کریں گے ۔

جناب قاضی حسین احمد : وزیر کی خاطر تو آپ ڈیفر کر دیتے ہیں مگر پرسوں یعنی جمعرات کو میں نہیں ہوں گا۔ اس میں میری بھی ایک تحریک ہے ۔ وہ آپ ڈیفر نہیں کریں گے ۔ اگر کسی ممبر کی تحریک ہو اور وہ موجود نہ ہو تو اس کی تحریک lapse کر دیتے ہیں ۔ دو وزراء موجود ہیں وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں ۔ دوسرے وزراء جناب والا ! موجود ہیں ۔

جناب ڈپٹی چیئر مین : یہ ان کی طرف سے request آئی تھی اس لیے آپ سے کہا ہے باقی ان کی مرضی ۔ آپ دونوں move کر دیں بحث بعد میں ہو جائیگی قاسم شاہ صاحب کے آنے پر چلئے move کر دیں ۔ جناب محمد طارق چوہدری صاحب ۔

جناب محمد طارق چوہدری : سر یہ بڑی سہولت ہے راجہ صاحب کے پاس لکھا لکھا یا سٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھ دیں گے ۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس بھی ہے تو

جناب ڈپٹی چیئر مین : چوہدری صاحب ! بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں یہ سب کا ایسا ہی حال ہے Chair ۔ کو تو نوٹس بھی لینے ہوتے ہیں اور منسٹر کے پاس جو انفارمیشن آتی ہے وہ ہوتی ہے ۔ اور یہ روایت ہے سب بمران پڑھتے ہیں ۔ کیونکہ میرا اکثر وقت آپ کے ساتھ گذرتا ہے ۔ چیئر مین صاحب اصرار کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں ۔ چوہدری صاحب آپ اس کو پڑھ دیں ۔ قاسم شاہ

کے آنے پر اس کا جواب دیا جائیگا۔

جناب محمد طارق چوہدری: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ پارا چنار جیل سے سات خطرناک تخریب کاروں کے کامیاب فرار کی کوشش سے پورے ملک میں استغلامیہ کی اس نااہلی کو تشویشناک اور پریشانی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ لہذا اس اہم ترین مسئلہ کو زیر بحث لایا جائے تاکہ سنگین غفلت کی اس کارروائی پر بحث کی جا سکے۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: جی قاضی صاحب آپ بھی پڑھ دیجئے۔

قاضی حسین احمد: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخباری اطلاعات کے مطابق پارا چنار جیل سے سات قیدی جو تخریب کاری میں ملوث تھے بھاگ نکلے۔ انہیں جیل کے باہر سے اسلحہ بھی پہنچایا گیا تھا یہ واقعہ فوراً اسپت کا معاملہ ہے لہذا ایوان کی کارروائی ملتوی کر کے اس پر بحث کی جائے۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: قاسم شاہ صاحب کے آنے پر ان پر بحث ہو سکے گی۔ آپ نے

move کر دی ہیں۔ next ہے جی ملک فرید اللہ خان کی۔

(iii) RE: BAN IMPOSED BY THE GOVERNMENT ON THE
ISSUANCE OF NEW ARMS LICENCES

ملک فرید اللہ خاں: جناب چیئر مین! روز نامہ جنگ ۱۲ ستمبر کی اشاعت کے مطابق وزیر داخلہ کا ایک بیان شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے ملک بھر میں نئے اسلحہ لائسنسوں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جناب وزیر داخلہ کے اس بیان سے صوبہ سرحد میں بالخصوص اور ملک کے دیگر حصوں میں بالعموم زبردست تشویش پھیل گئی ہے جب کہ اس سے چند یوم قبل جناب وزیر اعظم واضح کر چکے ہیں کہ عوام کو اپنی حفاظت خود کرنے کی ذمہ داری محسوس کرنے چاہیے لہذا ایوان اس اہم قومی اور فوری نوعیت کے حامل مسئلہ پر بحث کرے۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: جی راہبہ نادر پر وزیر صاحب۔

Mr. Nadir Pervaiz Khan: I oppose it Sir.

جناب ڈپٹی چیئر مین: جی ملک فرید اللہ صاحب۔

ملک فرید اللہ خان: جناب چیئر مین! اخبارات میں وزیر داخلہ پاکستان کا جو بیان شائع

ہوا ہے کہ ملک بھر میں اسلحہ کے لائسنسوں کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ چیز صوبہ سرحد کے عوام کے لئے خاص طور پر پریشانی اور تشویش کا باعث ہے۔ کیونکہ آج جو ملک کے حالات ہیں اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ شہریوں کو حفاظت خود اختیار ہی کے تحت اسلحہ کے لائسنس دیئے جائیں۔ جناب وزیر اعظم بارہا فرما چکے ہیں کہ ان حالات میں جب کہ تخریب کاری ہو رہی ہے امن و امان کا مسئلہ ہے تو ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنی حفاظت خود کرے۔ اب جناب والا! اگر عوام کو اس حق سے محروم رکھا جائے تو وہ لازماً غیر قانونی اسلحہ کی طرف مائل ہوں گے اور یہ رجحان بڑھتا جائے گا اور لاقانونیت پھیلے گی۔ بہتر یہ ہو گا کہ اس غیر قانونی اسلحہ کو بھی قانونی شکل دی جائے اور یہ پابندی حکومت اٹھا لے یہ ایک اہم مسئلہ ہے سرکار کے خزانے میں پیسے بھی جائیں گے اور وہ جو غیر قانونی اسلحہ ہے وہ بھی قانونی ہو جائے گا شکریہ۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: شکریہ۔ جی راجہ تادہ پرویز صاحب۔۔۔۔۔

جناب ہاشم خان: پوائنٹ آف آرڈر۔ ہمارے صوبہ سرحد کے معزز ممبر یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے لئے اسلحہ کے لائسنس پر پابندی لگی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ دو سال پہلے تقریباً مجھے ۶۶۲ ایم ایم رائفل کا ایک لائسنس ملا تھا اور ہمارے ڈپٹی کمشنر کے پاس ابھی تک وہ لائسنس پڑا ہوا ہے اور ابھی تک مجھے بندوق نہیں ملی۔ تو یہ نئے لائسنسوں کی بات کرتے ہیں جب کہ ہمارے پرانے لائسنسوں کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اگر اس کے بارے میں بھی ہمارے منسٹر صاحب فرمادیں تو بہتر ہو گا۔

جناب عبدالرحیم میر داد خیل: پوائنٹ آف آرڈر سر۔ جناب والا! یہ جو حکومت نے کہا ہے اور اخبارات میں بھی آیا ہے کہ اس سے پہلے ہر ایم این اے اور سینیٹر بیس لائسنس سفارش پر دے سکتے تھے اور وہ تصدیق کر کے دیتے تھے۔ اب اس کی پولیس وغیرہ کی تصدیق بھی رکھ دی گئی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مخالفت سیاسی جماعتیں ہزاروں کی تعداد میں کلاشنکوفوں کا مظاہرہ کر کے سیوں میں جلوس لے جاتی ہیں کیا حکومت نے ان پر کوئی

[Mr. Abdur Rahim Mir Dad Khel]

پابندی لگائی ہے جب کہ ملک کے شریف، تہمتے شہری اپنی حفاظت کے لیے لائسنس حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا ان کے لیے یہ قانون لاگو نہیں ہو سکتا۔

when

جناب ڈپٹی سپیکر: جی شکریہ تشریف رکھیں۔ جناب راجہ نادر پرویز صاحب۔

Raja Nadir Pervaiz Khan: Thank you, Sir. I fully respect the sentiments of the honourable Members of the House but I assure you, Sir, that due to the illegal trafficking of the arms in the country, the Government was forced to take certain measures. This illegal trafficking of arms created law and order situation in different provinces. We had to have intensive checking at different points to stop the flow of illicit arms in the country. For that, so many preventive measures were taken by the Government so that we do not have that indiscriminate carrying and show of the weapons in the country. We had issued instructions to the Provincial Governments had issued the ban orders, one was the province of Sind and the other was province of Punjab. Keeping this problem in view and facing the situation the Federal Government decided that we should put a ban so that we can effectively check the flow of the illicit arms in the country. The arms had gone to the hands of those people who were not genuine, we could take them as good citizens of the country. They were not supposed to be carrying weapons and initially about a few days back an order was issued in the different provinces for imposing section 144 whereby the display and firing and show of the weapons and carrying of the weapons was prohibited.

You must have seen and read in the newspapers Sir, that the Government had increased fee on the weapons. Non-prohibited bore and prohibited bore weapons so that we could check and ensure that only the genuine people carry and have a weapon on the licences. One of the honourable Member has said that he for the past two years had a licence and could not get a 7.72 m.m. rifle. I would suggest that it is policy of the Government, it is the entitlement of an honourable Member of the House that he is entitled to one prohibited and one non-prohibited bore weapon and he can import once he gets an import licence from the Ministry of Commerce. We only issue the licences according to the entitlement and the weapon can be had through one of the arms dealers only on an import licence which is issued by the Ministry of Commerce. I would request the honourable Member to contact the Ministry of Commerce to get his weapon. This ban which has been imposed by the Centre is a provisional ban. It is only for a limited period and I assure you Sir, that this ban has been imposed and instructions have been issued to the provinces that they should have on different times checks on the buses, on the wagons,

نظر نہیں آئیں گے۔ شکریہ!۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: جناب شاد محمد خان صاحب۔ انہوں نے نوڈ پریس نہیں کیا۔ پونے آٹھ بجے اس کا ٹائم بھی ختم ہو جائیگا۔ وزیر صاحب نے بھی جواب دینا ہے۔ ذرا اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ جی فرمائیے۔

جناب شاد محمد خان: جناب چیئر مین صاحب! لائسنسوں کے اجراء کے متعلق حکومت کی پالیسی تیزا دکھانے کا ارادہ ہے۔ جب سے ہم اس ایوان کے رکن بنے ہیں۔ کلاشنکوف کے اڑھائی ہزار لائسنس سابقہ مشرکے بیک قلم منسوخ کرنے پر لوگ پیٹنے رہے کہ خدارا ہمیں وہ ل ٹو واپس کر دیں اس ہاؤس میں یہ سوال ہوا کہ انہیں وہ رقم فیس کی تو واپس کی جائے۔ اس کے علاوہ جناب والا! ہمیں بار بار چھ سات مرتبہ نوٹیفیکیشن مل گیا ہے اور آخری نوٹیفیکیشن یہ ملا ہے کہ غیر ممنوعہ بورڈ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج سن کر ہمیں یہ بھی حیرت ہوئی ہے کہ غیر ممنوعہ بورڈ جس کا ہمیں اختیار دیا گیا تھا اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ لہذا ان لوگوں سے جن کے پاس محفوظ اکوئی بندوبست نہیں ہے، اتنا اطمینان ہے اس پر ذرا نظر ثانی کی جائے۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: شکریہ!۔ جی راجہ نادر پر وزیر صاحب۔

راجہ نادر پر وزیر خان: شکریہ سر۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک مستقل پابندی نہیں ہے۔ یہ صرف وقتی طور پر ہے ایک تھوڑے سے عرصہ کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے پچھلے چند مہینوں میں مختلف پالیسیاں بنائیں۔ یہاں تک کہ ممبران صاحبان کو پچھلے چند ہفتوں میں دس لائسنس ایٹو کرنے کی اجازت تھی۔ وہ بھی اسی بات پر کہ جب ممبر صاحبان اپنی قلم سے یہ لکھتے تھے کہ میں اس درخواست گزار کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ جب ایک ممبر لکھ دیتا تھا کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اس کے بعد پولیس ڈیپارٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی اگر اس کے باوجود بھی پولیس ڈیپارٹمنٹ کی جاتی تو یہ ممبر کی تحریک استحقاق بنتی ہے ہمارے دلوں میں ان کی پوری عزت اور احترام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آئریبل ممبر ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ حکومت

نے یہ جو ہم شروع کی ہے کہ اس اسلحہ کی بھرمار کو چیک کیا جا سکے جو کہ ہمارے ملک میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس سے جرائم کی شرح بھی بڑھ گئی ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی حکومت نے یہ محسوس کیا کہ ہماری اس کامیاب ہے یا اس کو کنٹرول کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے لئے اسٹورنس کے لئے کوئی پروگرام ہے تو میں، حکومت یا وزارت داخلہ ہر وقت حاضر ہیں اور جہاں تک ممبرز صاحبان کی مشکلات کا تعلق ہے تو ان کو حل کرنے کے لئے ہم شب و روز حاضر ہیں۔
جناب ڈپٹی چیئرمین: شکریہ!۔ جی ملک صاحب اب آپ کا کیا خیال ہے، وزیر صاحب کے بیان کے بعد پریس کرتے ہیں یا نہیں؟

ملک فرید اللہ خان: نہیں جی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: شکریہ! ناٹ پریسڈ۔ نیشنل اسمبلی سے ایک بل پاس ہو کر آیا ہے۔ یہ میسج ہے جو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔

MESSAGES — (i) THE SUPPRESSION OF TERRORIST ACTIVITIES (SPECIAL COURTS) (AMENDMENT) BILL, 1987.

(ii) THE PREVENTION OF THE GAMBLING (AMENDMENT) BILL, 1987.

(iii) THE CHARITABLE AND RELIGIOUS TRUST (AMENDMENT) BILL, 1987

(iv) THE SMALL BUSINESS FINANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 1987.

Mr. Chairman: In pursuance of Rule 109 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 1973, I have the honour to inform the Senate Secretariat that the National Assembly passed the Suppression of Terrorist Activities (Special Courts) (Amendment) Bill, 1987 on the 1st October, 1987 a copy of the Bill is transmitted herewith.

2. In pursuance of Rule 109 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 1973 I have the honour to inform the

[Mr. Deputy Chairman]

Senate Secretariat that the National Assembly passed the Prevention of the Gambling (Amendment) Bill, 1987 on the 1st October, 1987 a copy of the Bill is transmitted herewith.

3. In pursuance of Rule 109 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 1973, I have the honour to inform the Senate Secretariat that the National Assembly passed the Charitable Religious Trust (Amendment) Bill, 1987 on the 4th October, 1987. A copy of the Bill is transmitted herewith.

4. In pursuance of Rule 109 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 1973, I have the honour to inform the Senate Secretariat that the National Assembly passed the Small Business Finance Corporation (Amendment) Bill, 1987 on the 5th October, 1987. A copy of the Bill is transmitted herewith.

THE SUPPRESSION OF TERRORIST ACTIVITIES (SPECIAL COURTS) (AMENDMENT) BILL, 1987

Mr. Wasim Sajjad: Sir, with your permission I beg to move:

“That the Bill further to amend the Suppression of Terrorist Activities (Special Courts) Act, 1975 [The Suppression of Terrorist Activities (Special Courts) (Amendment) Bill, 1987], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

Mr. Deputy Chairman: The motion moved is:

“That the Bill further to amend the Suppression of Terrorist Activities (Special Courts) Act, 1975 [The Suppression of Terrorist Activities (Special Courts) (Amendment) Bill, 1987], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

Mr. Javed Jabbar: Opposed.

جناب وسیم سجاد: میں مختصر ذرا اس پر وضاحت کرنا چاہتا تھا۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: جی فرمائیے۔

Mr. Wasim Sajjad: Mr. Chairman, I just wanted to make a brief statement to explain the purpose of this Amendment Bill. The Special Courts constituted under the Suppression of Terrorist Activities (Special

Courts) Act of 1975 are courts of exclusive jurisdiction. Exclusive jurisdiction means that those offences which this court is competent to try are not triable by any other court. The offences which are triable by this court are mentioned in the schedule to this Act. These include, *inter alia*, offences under the Explosive Substances Act, offences under section 121, 124A, explosives and other such serious offences. A difficulty arose if during the course of trial of these offences a persons also commits an offence of murder or the offence under section 307 PPC then these other offences had to be tried by a separate court, that is, the Sessions Court. Therefore, in the same transaction in respect of offences falling within the schedule the court which tried them was the Special Court and other offences were triable by the Sessions Court. So, two trials had to be held in respect of the same matter. It is to remove this difficulty that we have moved this Amendment Bill.

The purpose is that an offence under section 302 and an offence under section 307 if committed in the course of the same transaction in which a scheduled offence is committed, will also be triable by the same court. This is to prevent duplication of proceedings. It does not mean that every 302 and every 307 PPC offence is triable by this court. No, Sir, that is not correct. It is only that 302 or that 307 offence which is committed in the course of the sme transaction in which an offence specified in the schedule is committed, that is, schedule 2 of the suppression of Terrorist Activities, that is all I wanted to say.

جناب ڈپٹی چیئر مین: اب اس پر جو راکین اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اگر وہ اپنا نام لکھا دیں تو اچھا ہے۔

جناب محمد طارق چوہدری: جناب چیئر مین! میری یہ درخواست ہے کہ اس کو آئندہ سٹنگ تنک کے لیئے ملتوی کیا جائے تاکہ ہم ذرا تفصیل سے تیاری کر کے بات کر سکیں۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: یہ بحث تو کر لیں۔

جناب محمد طارق چوہدری: بحث کے لیئے تو تیاری کی ضرورت ہے۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: جناب جاوید جبار صاحب، قاضی عبداللطیف صاحب، عبدالرحیم میرداد

خیل صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب، جناب محمد طارق چوہدری صاحب، نواز آزادہ جہانگیر شاہ

صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، میر حسین بخش بنگلہ زئی صاحب، جناب شاد محمد خان صاحب۔ جی

جاوید جبار صاحب آپ شروع کریں۔

Mr. Javed Jabbar: Thank you.

Mr. Chairman, while introducing the Bill for consideration the Justice Minister has given us a statement of objects and reasons but he has not cared unfortunately to comment at least in passing on the reasons why in his view there was considerable reservation and doubt expressed in the National Assembly on the wisdom of this particular Amendment Bill. I am sure as the honourable Minister in charge of Justice and Parliamentary Affairs has his views about why there was opposition to this Bill in the National Assembly. I would commend for his consideration and for the consideration of the House certain facts that have been touched upon there and certain aspects that may not have been touched upon there which I think should have been dealt with in his statement of objects and reasons because in a parliamentary system even though there has to be a Government and there has to be an opposition, there are some instances where opposition is not practiced merely for the sake of opposition. As the honourable Minister himself is aware and other Members are aware there have been some instances in the business of this House where Members who are not Members of the ruling party have extended support either vocally or tacitly to certain Bills and measures proposed by the Government. So, I would have preferred some reference, some statement of his perception as to why so much reservation was expressed but since he has not done so, I think it is our duty to examine these reservations about this particular Amendment Bill.

On the one hand this Bill is seen as simply a rationalization of an existing anomaly that a special court which is trying someone for an offence, let us say hijacking, because of the present wording of the Act or the Bill in question, cannot also try the same person for offences committed under certain sections of the PPC. That is one view of the Bill.

The other view of the same Bill is that it is, if it is not exactly a black law, it is certainly a dark law—a law that has many connotations of darkness attached to it and while on the face of it, it is a very short Bill and seeks to amend only one particular section of that Act, its ramifications or its implications have to do with a much larger framework. And what is this framework? The framework in my view is that in the historical background in Pakistan of prosecution on the one hand and persecution on the other hand, there has always been a very thin line, apart from the fact that they almost sound like each other. So, Sir, there has been always an overlapping between persecution and prosecution. While on the face of it most governments claim that they do not even require to resort to very complex laws in order to indulge in political persecution, the facts of the matter are that whether it is the previous elected government of this country or other governments—provincial as well as federal, many instances have

taken place in Pakistan's history where those in power have used certain loopholes in the law or more important certain loopholes in the administrative machinery of law and order in this country in order to persecute those that did not agree with them politically and who they see as a danger to their political power. Now, if we are talking of this amendment in this kind of society, it ceases to be a more rationalization of the existing law and, therefore, it is justified to consider it a potentially dark law.

Sir, the next reservation that one has about this particular Amendment Bill is that it is very crucially dependent on the efficiency, on the goodwill, on the impartiality of the investigative process in this country.

Unfortunately as you know the investigative process which is under the control of the police of this country can not by any stretch of the imagination be said to be either efficient or impartial. The investigative process which determines whether a person is guilty or should be investigated for Section 302 is in itself biased in favour of the establishment, biased in favour of the Government of the day we have seen before us an example where an elected Head of Government was implicated in a case, was tried, convicted, sentenced and executed when the overwhelming bulk of public opinion in Pakistan and outside Pakistan felt that this case had distinct political motivations. So, the investigative process in this country which allows on the one hand any one to walk in to a police station and enter any one's name in the FIR whether that person is innocent or guilty . . . it is a curious anomaly of our process of public complaint that literally even an innocent man can have his name recorded in the dark—and growing darker by the minute—books of the police stations of this country and on the other we have seen evidence where the most senior elected representative of this country became a victim of the investigative process. So, when a person or persons is are being investigated or prosecuted for one offence which is being tried in a Special Court, we know that the temptation has always been to use special methods or quick methods to ensure quick justice. We know for instance Sir, that in Pakistan murder cases carry on for two years, three years, four years, ten years and yet we know that when the Government of the day wants it, a particular murder case can be processed by the High Court at jet quick speed and the appeal heard at jet quick speed by the Supreme Court and sentence executed even before the normal conventional delays of justice can take place. So, how much are we vulnerable to misuse not only of laws on paper but the method of implementation of a law. So, therefore, that is the third reservation about this particular Amendment Bill.

Lastly Sir, I think that the Government of the day well recognizes that law and order and terrorism have become fundamental concerns,

[Mr. Javed Jabbar]

national concerns. Instead of introducing from time to time every two weeks, every three weeks some new amendment Bill for speedy courts, for speedy trials, for amendments to enable one Special Court to try various offences together, etc. I think, the significance of the subject was such that the Government should have called the Standing Committees or requested the Standing Committees of the Senate and the National Assembly which are concerned with the subject of this law which is the Interior Division and requested them to take a comprehensive review of all existing laws that deal with terrorism and with offences which can be described as disruptive and only after the Standing Committees in the Senate and the Assembly has had a chance to look at all the suggestions and proposals that Members may have had, one could then have presented one single comprehensive law—one single comprehensive Bill that would assimilate and integrate all the minor technical, rationalizations that the Government wants to bring as well as some basic changes that need to be introduced in order to make the judicial process and the investigative process fair and equitable to all concerned.

I would therefore, conclude my reservations on this particular Bill by pointing out that this Bill can not be seen an isolation to the overall atmosphere and situation of terrorism and law and order that obtains in the country. It is not merely a technical rationalization, it deals with the total framework of law and order in the country and therefore, it deserves to be presented after consideration by the Committees. Thank you.

جناب ڈپٹی چیئرمین: شکریہ جناب جاوید صاحب، قاضی حسین احمد صاحب۔

قاضی حسین احمد: بہت شکریہ، جناب چیئرمین! اس ترمیم کے ذریعے سے ایک بہت ہی اہم قانون اس ایوان میں زیر بحث آیا ہے جس کے بارے میں قومی اسمبلی میں کافی بحث و مباحثہ ہونا رہا اور یہ وہاں بھی متنازعہ رہا۔ جس قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے اس کو سابقہ حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین پر بہت غلط طریقے سے استعمال بھی کیا ہے اس قانون میں ایک بنیادی خامی یہ ہے کہ اسلامی شریعت اور اینگلو سکسین لاء کے اندر اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے تو استغاثہ پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے الزام کا ثبوت ہیما کرے لیکن اس قانون میں یہ انوکھا راستہ اختیار کیا گیا ہے کہ استغاثہ کی بجائے ملزم پر یہ بار ڈالا گیا ہے کہ وہ خود اپنی صفائی کے لیے دلیل اور ثبوت پیش کرے۔ جس کی وجہ سے حقیقتاً یہ ایک کالا قانون بن جاتا ہے اور یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا

ہنسی کرتا۔ جناب چیئر مین اجوریکارڈ اس قانون کو استعمال کرنے کا سابق حکومت نے جھوٹا ہے موجودہ دور کے اندر موجودہ حکومت کے بہت ذمہ دار لوگوں کی زبان سے ایسی باتیں سننے میں آئی ہیں۔ جو عوامی سطح پر انہوں نے کہی ہیں اس سے یہ خدشات یقین کو پہنچ جاتے ہیں کہ موجودہ حکومت بھی اس کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرے گی۔ سیدھ کا وزیر اعلیٰ ایک باوقار منصب پر فائز ہے جس نے کھلم کھلا کہا کہ اچھے کے ہنگاموں اور بد امنی میں جماعت اسلامی ملوث ہے حالانکہ وہاں کے آئی جی پولیس نے اس کی تردید کی اور انہوں نے وہ تمام حقائق پیش کیے کہ کون لوگ اس میں ملوث ہیں لیکن ایک وزیر اعلیٰ نے صرف سیاسی اختلاف کی بنیاد پر اور اپنے سیاسی مخالف کو سیاسی نقصان پہنچانے کے لیے یہ سیٹ منٹ دی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو اس قانون کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کر سکتی ہے اور سابق دور میں یہ قانون سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے جماعت اسلامی کے سیکرٹریوں کا رکن اسی قانون کے تحت عدالتوں کے اندر پیش ہوتے رہے ہیں اور ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتتے رہے ہیں۔

جناب چیئر مین! دوسری بات یہ ہے کہ تخریب کاری کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں قانون کی کمی تھی۔ قوانین موجود ہیں تخریب کاری کے خلاف بھی موجود ہیں بغاوت کے خلاف بھی موجود ہیں لیکن ان تمام قوانین کے باوجود تخریب کاری ہوتی رہی ہے اور تخریب کاروں کو یہاں تحفظ حاصل ہے ابھی جو تین تھریک انٹوا پیش ہوئی ہیں اور ان کا جو موضوع تھا کہ جیل سے سات تخریب کار اور بد معاش فرار ہو گئے اور ان کو اسلحہ بھی جیل کے اندر پہنچایا گیا۔ اب یہ اسلحہ پہنچانا اور ان کا جیل سے فرار ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے اس بات کی علامت ہے کہ حکومت میں اور انتظامیہ کے اندر خود تخریب کاروں کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر حکومت یا انتظامیہ اور پولیس کے اندر تخریب کاروں کے سرپرست موجود نہ ہوتے تو جناب والا! یہ ممکن نہیں تھا کہ جیل سے بد معاش اور تخریب کار فرار ہو جاتے اور یہ جو کہ پشن عا ہے ابھی پچھلے دنوں میں اٹک پل سے ہو کر آ رہا تھا تو ایک پک اپ سے انکوڑ کی پٹیاں انا رہی گئی تھیں۔ پک اپ کے مالک نے مجھ سے فریاد کی کہ مجھے اس پولیس نے دو گھنٹے سے روکا ہوا ہے میری ایک ایک

[Qazi Hussain Ahmed]

چیز کو یہ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ان کو دینے کے لئے دو سو روپے نہیں ہیں کوئی ٹرک والا ان کو پانچ سو یا ہزار روپے دیدے اور نمونوں سے اپنے ٹرک کو بھر کر لے جائے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے لیکن اگر رشوت نہیں دیتے تو آپ کو ناجائز طریقے سے تنگ کیا جاتا ہے۔ تاکہ راستے

میں امام انتظامیہ کے لوگوں کو رشوت دیں۔ انتظامیہ کو وہ رشوت کی یہ رقم بچے سے ادھر تک پہنچائیں گے اور آپ پھر اس کے نتیجے میں جو چاہیں لے جائیں، بچ لے جائیں، بارود لے جائیں، دھماکہ خیز مواد لے جائیں اور پھر اسے سارے ملک کے اندر پھیلا دیں، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ قانون کی کمی نہیں ہے بلکہ یہ انتظامیہ اور حکومت کی نااہلی ہے، اس کی کاپی ہے۔ اس کی سستی ہے، اور اس کے اندر دراڑیں ہیں، اس کے اندر تخریب، کارڈوں کے اثرات ہیں، اس کے اندر کرپشن ہے جو کسی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بحر میں کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے اور وہ کھل کر اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس لئے میرا یہ خیال نہیں ہے کہ نئے قوانین کی ضرورت ہے یا اس کے لئے کسی نئے آرڈیننس کی ضرورت ہے۔ یا کوئی ایسا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہو، کوئی ایسا راستہ تخریب کاری کو روکنے کے بہانے اگر بنایا جائیگا کہ حکومت کے ہاتھ میں ایسے اختیارات دیئے جائیں کہ وہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب چیئرمین تخریب کار اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں انصاف کے راستے سے ہٹا کر، عدل کے بنیادی اصولوں سے ہٹا کر تخریب کار کامیاب ہو جائیں گے، جناب والا، اس ملک کی بنیاد تو عدل پر ہے، اسلام پر ہے۔ اگر کسی ملک کی بنیاد ہی عدل اور انصاف سے ہٹ جائے اور وہ ایسے قوانین بنانے لگیں جو انصاف کے تقاضوں کو، عدل کے تقاضوں کو پورا نہ کریں گے تو ہلکے عدل و انصاف کے منافی ہوں تو پھر یہ ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ حضرت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بادشاہت، مملکت، ریاست، حکومت کفر کے ساتھ تو قائم رہ

سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں۔ اگر آپ ایسی قانون سازی کریں گے، ایسے طریقے استعمال کریں گے جس کے نتیجے میں عدل کی بجائے ظلم کا راستہ اختیار کیا جائے تو اس سے بنیادی ڈھانچہ متزلزل ہو جائیگا۔ اس عدل کا، انصاف کا اور اس قانون کا۔ اس لیے میں اس حکومت سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بنیادی ڈھانچے کو متزلزل کرنے کی بجائے انصاف کے اصولوں پر ہی قائم رہے لیکن جہاں خرابی ہے، اس خرابی کو دور کر دیں۔ کرپشن کو دور کر دیں، اسٹیبلشمنٹ کو دور کر دیں جہاں خود انتظامیہ کے اندر تذبذب ہے، اس کو دور کر دیں۔ یہی طریقہ ہے جس سے تخریب کاری اور تخریب کاروں کا سدباب کیا جاسکتا ہے۔

جناب والا! اس ترمیم کا براہِ عمل موضوع ہے، جو انہوں نے اغراض و مقاصد میں بتایا ہے۔ اس ترمیم میں انہوں نے کہا ہے کہ ۲۰۳ اور ۲۰۷ دفعات کے جو مقدمات ہیں اور اس کے ساتھ جو تخریب کاری کے واقعات ہوتے ہیں انہیں بھی ان عدالتوں کے دائرہ اختیار میں لایا جائے قانون تو پہلے سے موجود ہے لیکن ہم تو صرف یہی ترمیم لے کر آئے ہیں۔ جناب والا! اس پر قانون دان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے جو الفاظ انہوں نے کہا دیئے ہیں۔

In combination with or in addition to such offences.

اس میں جو "ایڈیشن" کا لفظ ہے اس کے تحت کوئی بھی ۲۰۲ اور ۲۰۷ کا مقدمہ شامل کر سکتے ہوں، add کر سکتے ہیں اس previous جو واقعہ تخریب کاری کا ہے، اس کے ساتھ ہی اسی ملزم کو، اگر وہ ۲۰۲ یا ۲۰۷ کے عداد میں کسی مقدمہ میں ملوث ہے، تو اس کو پھر اسی عدالت کے سامنے پیش کیا جاسکتا ہے تو جناب والا! اس میں بہر حال یہ امکان بھی موجود ہے کہ ۲۰۲ اور ۲۰۷ کے عموماً مقدمات بھی اس عدالت کے دائرہ کار میں لائے جاسکتے ہیں اس سے ملک میں ایک بہت بڑے طبقے میں اضطراب پیدا ہوا ہے جو کہ اس ملک میں انصاف کے نگہبان ہیں اور لوگوں کو انصاف دلوانا چاہتے ہیں۔ قانون دان طبقے میں اس پر اضطراب ہے، جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے اس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکیں گے کیونکہ یہ جو قانون ہے جس میں ترمیم دی گئی ہے اس میں بنیادی flaws ہیں، یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ سرعت کے ساتھ انصاف ملے، اس میں کوئی

[Qazi Hussain Ahmed]

شکہ نہیں کہ ہمارا اپنا یہی مطالبہ ہے کہ مقدمات کا فیصلہ بہت تیزی کے ساتھ ہو لیکن یہ بھی ساتھ
ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تیزی کے ساتھ ساتھ کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو جائے کیونکہ یہ ایک شریعت
کا ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر دس گنہگار چھوٹ جائیں تو ان دس گنہگاروں کا چھوٹ جانا انا بڑا
ظلم نہیں ہے جتنا کہ کسی ایک بے گناہ کو سزا ملنا۔ اس قانون میں بہر حال یہ امکان موجود ہے کہ
ایک بے گناہ کو سزا مل سکتی ہے۔

جناب والا! ان ہی دلائل کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ نا اہل حکومت کے جس کی
انتظامیہ کہہ سکتے ہیں، ہاتھ میں مزید اختیار دینا قوم کو مزید مصیبت میں مبتلا کرنے اور
تخریب کاروں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔

جناب ڈپٹی چیئر مین : جناب اقبال احمد خان صاحب -

جناب اقبال احمد خان : جناب والا! میں قاضی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں
کہ اس قانون کے ذریعے حکومت کو کوئی اختیار نہیں مل رہا ہے، بلکہ یہ اختیارات عدلیہ کو دینے
جا رہے ہیں۔

جناب ڈپٹی چیئر مین : شکریہ، مولانا سمیع الحق صاحب، میں نو قاضی عبداللطیف صاحب

کا نام پکارنے والا تھا۔ بہر حال آپ دونوں میں سے جو صاحب بھی بولنا چاہیں ارشاد فرمائیں۔

مولانا سمیع الحق : میں تباہی پر سوں اجلاس میں شرکت نہ کر سکوں۔

جناب ڈپٹی چیئر مین : ٹھیک ہے۔

مولانا سمیع الحق : جناب والا! میں مختصر عرض کروں گا اور آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔

جہاں تک تخریب کاری پر کنٹرول کے مسئلے کا تعلق ہے، یہ ایک نہایت ضروری اور اہم ترین
مسئلہ ہے اس وقت پورے ملک میں ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے اور کسی وقت
بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں لقمہ اجل بن سکتا ہوں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ قومی سطح پر اس مسئلہ
پر توجہ دی جائے اور ہر وہ اقدام کرنا چاہیے جس سے تخریب کاری کا فوری اٹھاؤ ہو۔ یہ بل جو
ہمارے سامنے ہے اس کی میرے خیال میں ایک بنیادی خامی یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق دہشت پسندانہ

سرگرمیوں سے ہے لیکن بل میں دہشت پسندانہ سرگرمیوں کی کوئی وضاحت یا توضیح نہیں کی گئی ہے حالانکہ کوئی بھی مسودہ قانون ہو تو اس میں واضح طور پر اس کی وضاحت ہوتی ہے اس میں بھی واضح طور پر دہشت پسندانہ سرگرمیوں کی توضیح ہونی چاہیے تھی تاکہ آگے چل کر، اسے مبہم سمجھ کر، اس کو کوئی غلط مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ کل کو آپ کسی سیاسی سرگرمی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دہشت پسندانہ سرگرمی ہے۔ آپ کسی جلسہ یا جلوس یا کسی بھی مسئلہ کو دہشت پسندانہ سرگرمی قرار دے کر اس قانون کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تخریب کاری پر کنٹرول تو نہایت لازمی ہے لیکن ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آگے چل کر ایسے قوانین اور ان خصوصی عدالتوں کو غلط استعمال نہ کیا جاسکے۔ اسے مخالف سیاسی مقاصد رکھنے والے لوگوں کے خلاف ایک پھندے کے طور پر استعمال نہ کیا جاسکے عموماً ایسے ہوا ہے کہ بعض حکمرانوں نے اپنے اقتدار کے نشے میں بعض ایسے قوانین بنائے ہیں اور ایسے اقدامات کیے جو آگے چل کر خود ان کے لیے وبال جان بن گئے۔ ۱۹۷۳ء سے لے کر ۱۹۷۷ء تک میں پچھلے دور اقتدار میں بعض ایسے اقدامات کئے گئے تھے۔ اس وقت حکومت کے بعض اور حزب اختلاف کے اراکین نے انہیں بڑے غلوں سے روکا تھا کہ یہ قوانین آگے چل کر جمہوریت کے لیے اور عوام کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں لیکن وہ نہ مانے اور بالآخر وہی قوانین ان کے لیے پھندہ بن گئے تو کہیں ہمارے لیے بھی یہ مسئلہ وبال جان نہ بن جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ دہشت پسندانہ اور تخریب کارانہ سرگرمیوں کے لیے اسلام میں بڑی واضح تعزیرات مقرر ہیں۔ ہم انگریزی قوانین کی طرف تو جاتے ہیں اور ان میں کچھ ترامیم کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسئلہ حل ہو گیا ہے لیکن اصل مسئلہ جب تک اسلامی تعزیرات نافذ نہ کی جائیں وہ سزائیں جو چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، راستہ کاٹنے والوں کے لیے اور تخریب کاروں کے لیے، فساد پیدا کرنے والوں کے لیے اللہ اور رسولؐ نے مقرر کی ہیں۔ تو یہ مسئلہ حل نہ ہوگا اگر آپ نافذ کرتے تو یہ سارا مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے آپ کو آج ترامیم کی ضرورت ہوتی نہ خصوصی عدالتوں کی ضرورت ہوتی۔ کیونکہ اسلام نے ہمیں اس معاملے میں محروم نہیں چھوڑا، اور نہ ہم اس معاملے میں دیگر اقوام کے دست نگر ہوتے۔ پھر آپ نے، خصوصی عدالتیں ہوں یا عام عدالتیں

[Maulana Sami-ul-Haq]

ہوں، اس کا جو طریقہ کار رکھا ہے اور اس میں جو شہادت اور ثبوت کے طریقے ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ جیب تک وہ فالون شہادت اور ضابطہ کار جو عدالتوں میں شہادت سے مروج ہے کچھ چیزیں بنائی گئی تھیں جب تک وہ چیزیں ہوں گی تو خصوصی عدالتوں کے ذریعے ہی آپ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہاں شہادت کا سارا فالون ہی آپ جو دیا شننے ہیں کہ کیا ہے پھر اس میں وکالت کا جو سلسلہ ہے اور اس میں ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنانے کا سارا سلسلہ ہے، اسی سلسلے کے ہوتے ہوئے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ ان عدالتوں کی وجہ سے آپ تخریب کاری پر کوئی پابندی لگا سکتے ہیں۔ یہاں پورا سلسلہ سفارشات، رشوت اور جس کے پاس دولت ہے اور انصاف کو خریدنے کا حوصلہ ہے اور جس کی جیب گرم ہوگی وہ مقصد تک پہنچ سکے گا ورنہ وہ اسی طرح محروم اور مظلوم رہیگا۔

ان خرابیوں کے ہوتے ہوئے یہ سارے موجودہ قوانین جو رائج ہیں وہ غیر موثر ہو کر رہ گئے اور اس آرڈیننس کے بعد آپ اس کو قانونی شکل دے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی آسانی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ اور بے انصافیوں کا سلسلہ دراز ہونا جائیگا جیسے کہ قاضی صاحب ہمارے دوست نے فرمایا کہ انتظامیہ کے کچھ عناصر ایسے ہیں کہ ان کی طرف سے تخریب کاری کی درپردہ سرپرستی ہوتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں مثلاً ان کے مفادات ان لوگوں سے وابستہ ہوں جو امن و امان کو تہ و بالا کرنا چاہتے ہوں یا جن کو ہماری موجودہ افغان پالیسی سے اتفاق نہیں ہے۔ وہ لوگ بعض جگہوں پر انتظامیہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور انتظامیہ ان کو خوش کرنا چاہتی ہے اور بسا اوقات تخریب کاری کا اسی طرح یا تو چھوٹ جاتے ہیں یا ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں یا اسی طرح پڑے رہتے ہیں لیکن ان کو سزا نہیں ملتی ہے۔ اس وقت تخریب کاری کے سلسلے کے ساتھ افغان مسئلے کا خاص تعلق ہے اور کئی جگہ پر وہ افغانی باشندے ہوتے ہیں۔ غیر ملکی ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں میری رائے اور تجویز یہ ہے کہ ان خصوصی عدالتوں کے ذریعے ہم ان پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکیں گے اس کا ایک موثر علاج یہ ہے کہ اگر تخریب کاری میں ملوث کوئی افغان باشندہ پکڑا جائے تو افغانستان کے باشندے مہاجرین جو یہاں رہتے ہیں اور مجاہدین کی جو جماعتیں ہیں جو ان کے لیڈر ہیں وہ اپنے ملک کے لوگوں کو پہنچانے ہیں کہ یہ کس ذہن کا ہے، تخریب کاری ہے یہ خاد کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے یا پرچی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو ان کے

حوالے کیا جائے۔ میں پاکستانیوں کے بارے میں نہیں کہتا۔ مجھے کئی افغان مجاہدین نے آکر خود کہا ہے کہ ہم یہ ذمہ داری خود قبول کرنے کو تیار ہیں اگر حکومت ہمارے ملک کے باشندوں کے بارے میں ہمیں اختیار دیدے ہم ان کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کر کے ان کو سزا دے سکتے ہیں اور اس معاملے میں حکومت کا یہ دخل بھی نہ ہو کہ آپ اس کو چھوڑیں۔ پہلے وہ لوگ خود ان کو پکڑ لیتے تھے اور ان کو کیفر دار تک پہنچا دیتے تھے اور چند دنوں میں وہ ان کو ٹھکانے لگا دیتے تھے پھر تو یہ سلسلہ جلتا ہی نہیں تھا لیکن بعد میں یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ انتظامیہ نے اس میں مداخلت شروع کی وہاں انہوں نے ایک آدمی پکڑا اور انتظامیہ کی طرف سے اس کو چھڑا یا گیا کہ آپ لوگوں کا اس سے کیا تعلق ہے۔ ان کو الٹا حراست میں رکھا گیا۔ حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ تخریب کار تھے ملک دشمن تھے روس کے ایجنٹ تھے تو اگر ہم افغان مجاہدین سے مدد لے لیں اور ان زعماء سے کہیں کہ اسلامی طریقے سے آپ ایک ٹر بیونل بنا لیں یا جس طریقے سے ہوسات جماعتوں کا بنالیں اور کوئی افغان تخریب کار اگر پکڑا جائے تو فوراً اس کو ٹر بیونل کے حوالے کر دیں۔ اور یہ ہمارا دوسرا ہی نہ رہے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاء اللہ اس معاملے میں وہ فوراً چند گھنٹوں میں فیصلے تک پہنچ سکیں گے اور تخریب کار کو قرار واقعی سزا مل سکے گی۔

ہمارا موجودہ نظام بالکل ناقص ہے آپ کے پشاور میں پورے ایک سکول کے بچوں کو اڑایا گیا اور وہ تخریب کار پکڑا گیا اور آگے چل کر ٹل، ٹنگو وغیرہ میں جا کر اس کی ضمانت ہو گئی۔ بانیں چل رہی ہیں کہ ۳۰، ۳۰ لاکھ روپے رشوت لے کر تخریب کاروں کو چھوڑا گیا۔ آپ کے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا تخریب کار بیٹھا ہوا ہے انہی لوگوں میں سے اور اجنارات میں بھی آیا کہ ۴۰ یا ۵۰ لاکھ روپے میں سودا کر کے اس کو بٹھا یا گیا یا رکھا گیا ہے یہ سودا کون کرنا ہے۔ اس میں جب تک انتظامیہ سے باز پرس نہیں ہوگی یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سزا دینی ہے تو تخریب کار کو قوری طور پر برسرعام دھمے جائے۔ اور اس تخریب کار کو ایسی سزا دی جائے کہ ٹی وی پر دکھائی جائے اور کھلے میدان میں دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت سارے لوگ بے چین ہیں۔ کوئی بس میں سوار ہونا ہے تو دل لڑتا ہے کوئی سڑک پر جاتا ہے کوئی کسی کا بچہ

[Maulana Sami-ul-Haq]

جاتا ہے تو جب تک واپس نہ آئے بے چینی رہتی ہے۔ جناب والا! صرف اس آرڈیننس کو پاس کرنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس کے لیے عملی اور موثر اقدام کریں۔ کل بھی اسلام آباد میں دھماکہ ہوا ہے اللہ کرے کہ حکومت اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکے اور اس ملک کو امن و امان کی فضا فراہم ہو سکے۔ شکریہ!

جناب ڈپٹی چیئر مین: شکریہ یہ، جناب سینگلزٹی صاحب۔

میر حسین بخش سینگلزٹی: جناب والا! میں آپ کے توسط سے مولانا صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں گا کہ ہاؤس کی اطلاع کے لیے اگر اس نخریب کار کا نام لے لیں تو ہم بڑے مشکور رہوں گے۔
مولانا سمیع الحق: وہ اجازت میں آچکا ہے اور ”سبکیہ“ میں اس پر پورا فیچر لکھا گیا ہے۔ میں انشاء اللہ آپ کو تفضیلاً حالات دے دوں گا۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: شکریہ یہ، جناب قاضی عبداللطیف صاحب۔

قاضی عبداللطیف: جناب کورم نہیں ہے۔

جناب ڈپٹی چیئر مین: گن لیتے ہیں۔۔۔۔۔ جی نہیں ہے۔ لہذا اجلاس جمعرات ۸ اکتوبر صبح ۹ بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے۔

[The House adjourned to meet again at nine of the clock in the morning on Thursday, October 8, 1987].